

دلائل الخيرات

لإمام محمد بن سليمان بن داود الجزوئي السعدي الشاذلي
(٨٧٠ - ٩٧٠)

تصحيح، ترتيب وتقدير

مفتى مع عبد الرزاق

فاضل جامعة فاروقية
متخصص جامعة العلوم الإسلامية
علامة بنورى ثاونى كراچى

لينز بيشنر
خیبر پختونخوا، پاکستان



للشيخ محمد بن سليمان الجزوی رحمہ اللہ

تصحیح و ترتیب

مفتی سعید عبدالزالق

فاضل جامعۃ فاروقیۃ
متخصص جامعۃ العلوم الایسلامیۃ
علامہ بنوری ڈاؤن گراجی



جُمِلَه حقوق بحق نائیں محفوظ اھیں

دکال الحین

كتاب کا نام

۲۰۱۴ء

تاریخ اشاعت

۲۳۷

صفحات

مفتی سعید عبدالرازق

ترتیب

نبیل الحمد

باہتمام

ناشر



فهرست

٢	ا) عرض مرتب	◀
١٢	ب) آسماء الله الحسنى	◀
١٨	ج) آسماء النبي ﷺ	◀
٣٣	د) دعاء التبيّة	◀
٣٨	پہلی منزل بروز پیر	◀
٤٠	دوسری منزل بروز منگل	◀
٨٣	تیسرا منزل بروز بدھ	◀
۱۰۸	چوتھی منزل بروز جمعرات	◀
۱۳۲	پانچویں منزل بروز جمعہ	◀
۱۶۳	چھٹی منزل بروز ہفتہ	◀
۱۸۹	ساتویں منزل بروز اتوار	◀
۲۱۶	آٹھویں منزل بروز پیر	◀
۲۳۲	خاتمه	◀



عرض مرتب

اولیاء اللہ کا قول ہے کہ ہم نے جو کچھ پایا وہ درود شریف کی بدولت ہی پایا اور ظاہر ہے کہ نجات اور تمام بھلائیوں کا سب سے بڑا سبب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بابرکت ہی ہے جن کے سر مبارک پر اللہ تعالیٰ نے محبوبیت کا تاج سجا یا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ وسلام بھیجننا تمام خوبیوں اور بھلائیوں کی کنجی ہے، صلوٰۃ وسلام پر ہر زمانے کے اہل اللہ نے کتابیں تالیف کیں، مگر حضرت سید احمد بن سلیمان جزوی رحمہ اللہ کی تالیف دلائل الخیرات کو جو قبولیت حاصل ہوئی وہ اپنی مثال آپ ہے، بلاد عرب و عجم اور تمام اطراف عالم میں اس کی قراءت جاری و ساری ہے، اگرچہ درود وسلام کے لئے کسی کی اجازت ضروری نہیں مگر تسلسل کی امتیازی و خصوصی شان کی وجہ سے کسی اللہ والے کی اجازت سے درود شریف پڑھنا یقیناً زیادتی نفع کا سبب بنے گا، اسی وجہ سے بندہ نے اپنی سند کتاب کے شروع میں درج کر دی ہے، تمام پڑھنے والوں سے گزارش ہے کہ اپنے معمولات میں اس کتاب کو شامل کریں اور بندہ کو اور جملہ معاونین کو اپنی دعا و دوں میں یاد رکھیں دوران قراءت اگر کسی غلطی کی طرف توجہ ہو تو بندہ کو مطلع کریں یہ آپ کا بندہ پر احسان ہو گا۔

فقط و السلام
سعد عبدالرازاق

+92 321 2022205

چند ضروری ہدایات

❶ دلائل شریف کا اور دکرتے ہوئے وہی نیت کی جائے جو دعاء النبیہ

میں مذکور ہے صرف کتاب کی تلاوت مقصود نہ بنائی جائے بلکہ مقصود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود شریف کا ہدیہ پیش کرنا ہو اور اس کتاب کو اس کے لئے ذریعہ سمجھا جائے۔

❷ درود شریف کے فضائل میں قرآن حکیم اور صحیح احادیث مبارکہ میں وارد نصوص پیش نظر کئے جائیں، پڑھتے وقت اخلاص و ادب کے ساتھ ان فضائل کا استحضار، شعور و احساس بے حد مفید ہے۔

❸ دلائل کا اور ہمارے مشائخ کا معمول رہا ہے، حضرت حاجی امداد اللہ مکی رحمہ اللہ کے بارے میں معروف ہے کہ آپ سفر و حضر میں ہمیشہ تین کتابیں، قرآن شریف، مشنوی شریف اور دلائل الخیرات اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور حضرت بنوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دلائل کا اور دیک کامل قمیع سنت مرشد کے ہاتھ پر بیعت کا کام دیتا ہے، حضرت والا کے ارشاد کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ صحیح حدیث میں وارد ہے کہ

مَنْ صَلَّى عَلَىٰ مَرَّةً صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا

جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر دس بار رحمت نازل فرماتا ہے

اور دارمی شریف کی روایت میں ہے:

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَائِكَتُهُ سَبَعِينَ مَرَّةً

اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پرست بار رحمت نازل فرماتے ہیں

اور قرآن کریم میں ہے:

هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ

لِيُخْرِجُكُمْ مِّنَ الظُّلْمِ إِلَى النُّورِ

وہ ذات (اللہ تعالیٰ) اور اس کے فرشتے تم پر رحمت نازل فرماتے ہیں

تاکہ تمہیں (جہالت کی) اندھیریوں سے (ایمان کے) نور کی طرف

لے جائیں۔

حدیث شریف کے مطابق درود شریف پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی طرف سے صلوٰۃ کا نزول ہوتا ہے اور قرآن شریف سے معلوم ہوا کہ جس شخص پر اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی طرف سے صلوٰۃ کا نزول ہوتا ہے وہ ہر قسم کی ظلمات (شرک، کفر، فسق، نفاق، غفلت وغیرہ) سے نکل کر نور (ایمان، توحید، اخلاص، یقین، طاعت وغیرہ) میں داخل کر دیا جاتا ہے اور بیعت سے بھی یہی مقصود ہوا کرتا ہے۔

۲ کوئی بھی ذکر ہواں پر مداومت بہت مفید ہوتی ہے خصوصاً درود شریف کا ورد پابندی کے ساتھ کیا جائے نامہ کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس کی پریشانی کا احتمال ہے والیاذ باللہ، حدیث شریف میں وارد ہوا

ہے کہ درود وسلام پڑھتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک پڑھنے والے کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور شرف جواب سے سرفراز کیا جاتا ہے یہ وہ نعمت عظیمی ہے جس کے مقابلے میں ایک عاشق کی نظر میں ہفت اقلیم تو کیا ہشت بہشت بھی ہیچ ہیں، اس عظیم نعمت سے محرومی اور محظوظ رب کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو درود وسلام پھیجنے میں کوتا ہی کرنا قانون عشق و محبت کی نگاہ میں لکنے بڑے نقصان و خسارے کا سبب ہے اور کتنا بڑا جرم ہے اس کا تصور کرنا بھی محال ہے، اس لئے حتی الامکان اس بات کی کوشش کی جائے کہ پابندی اور اہتمام کے ساتھ درود شریف کا ورد کیا جائے۔

۵ بہتر یہ ہے کہ اپنے شیخ مختار یا کسی ایسے مستند بزرگ جن کو دلائل پڑھنے کی مشائخ سے اجازت حاصل ہو، ان کی اجازت سے دلائل شریف کا ورد کیا جائے۔

چند ضروری وضاحتیں

دلائل الخیرات کے بعض الفاظ میں ہو سکتا ہے کسی کو کچھ تردہ ہو اس لئے چند وضاحتی جملے عرض خدمت ہیں:

۱ اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رحمت، غیاث یا کاشف الکرب قسم کے جو الفاظ آئے ہیں اگر خلجان ہو تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں حیات طیبہ اور خشر میں آنے والی حالت پر محمول کر لیا جائے۔

۲ وَنُورًا عَلَى نُورِهِ الَّذِي مِنْهُ خَلَقَنَّہ کو عالم ارواح میں خلق

پر محمول کیا جائے یا اس کا تعلق روح سے جوڑ دیں نہ کہ خلق جسم اطہر سے۔

۲ خطاب وندا کا جہاں ذکر ہو دہاں یہ تصور کیا جائے کہ میری آواز

فرشته خدمت اقدس ﷺ میں پہنچا رہے ہیں یا آپ ﷺ کو اپنے ذہاں اور اپنے تصور میں لا کر خطاب کریں یا اپنے آپ کو روضہ اقدس پر حاضر تصور کر کے پڑھیں۔

۳ **حَتَّىٰ لَا يَنْقُضِي مِنَ الرَّحْمَةِ شَيْءٌ** وغیرہ میں صفات خداوندی

کی محدودیت کا جوشہ پیدا ہوتا ہے اس کے کئی جواب ہیں اول یہ الفاظ ماثور ہیں سمجھ میں نہ آئے تو مشابہات میں سے سمجھیں، ثانیاً ان الفاظ سے حقیقی معنی مراد نہیں بلکہ یہ کثرت سے کنایہ ہے جیسا کی سبعین (ستر) وغیرہ محدود عدد کے الفاظ کثرت سے کنایہ کے لئے آتے ہیں۔ ثالثاً رحمت برکت، سلام وغیرہ صفات کے افراد تو لامناہی ہیں لیکن انواع متناہی ہیں یہاں تناہی انواع مراد ہے نہ کہ متناہی افراد۔

لیکن ان تمام گزارشات کے باوجود اگر کسی صاحب علم قاری کو کسی عبارت سے اطمینان خاطر نہ ہو تو وہ اسے نہ پڑھے، ہمارے بزرگوں میں اس کی بعض مثالیں موجود ہیں کہ وہ بعض موہم عبارتوں کو نہیں پڑھا کرتے تھے۔

کتاب پڑھنے کا طریقہ

دلائل الخیرات کو آٹھ منزلوں میں تقسیم کیا گیا پہلی منزل پیر کے دن سے شروع ہوتی ہے اور آٹھویں منزل پیر کے دن ہی اختتام کو پہنچتی ہے گویا پیر کے دن دو منزلیں پہلی اور آخری پڑھی جائیں گی، روزانہ کی منزل پڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ، روضہ مبارکہ کی صفت اور دعاء نیت کو پڑھا جائے اور پھر منزل شروع سے آخر تک پڑھی جائے۔

سند اجازت دلائل الخيرات

آجَازَنِي الشَّيْخُ وَاصِفُ بْنُ مَنْظُورٍ رَّحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَى

میرے حضرت اور میرے شیخ و اصف منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے دلائل الخیرات پر حسکی

وَأَيْضًا

اجازت مرحمت فرمائی اور اسی طرح

آجَازَنِي الشَّيْخُ شَمْسُ الرَّحْمَنِ أَدَمَ اللَّهُ بَرَكَاتُهُ

مجھے اجازت دی مولانا شمس الرحمن صاحب نے اللہ تعالیٰ ان کی برکات کو دوام بخشی

وَمَتَّعَنَا بِطُولِ حَيَاتِهِ وَآجَازَهُ الشَّيْخُ فَضْلُ مُحَمَّدٍ

اور ان کو لبی زندگی عطا فرمائیں ان سے مستفید فرمائے اور انہیں اجازت دی شیخ فضل محمد نے

وَآجَازَهُ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ قَمَرٌ (جو رہ شریف) وَآجَازَهُ

اور انہیں اجازت دی شیخ محمد قمر جو رہ شریف والوں نے اور انہیں اجازت دی

الشَّيْخُ وَلِيُّ أَحْمَدٍ (سنڈاکی بابا جی) وَآجَازَهُ الشَّيْخُ

شیخ ولی محمد معروف سنڈاکی بابا جی نے اور انہیں اجازت دی

عَبْدُ الْحَقِّ عَنِ الشَّيْخِ عَلَى بْنِ يُوسُفَ الْبَاشِلِيِّ

شیخ عبد الحق نے اور وہ روایت کرتے ہیں شیخ علی بن یوسف الباشلی المدنی سے

الْمَدْنِيٌّ عَنِ الشَّيْخِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُدْعَرِيِّ عَنِ

اور وہ روایت کرتے ہیں شیخ احمد بن محمد المدعری سے اور وہ روایت کرتے ہیں

الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْمُثَنِّيِّ عَنِ الشَّيْخِ أَحْمَدَ بْنِ

شیخ محمد بن احمد المثنی سے اور وہ روایت کرتے ہیں شیخ احمد بن الحجاج سے

الْحَاجِّ عَنِ الشَّيْخِ أَحْمَدَ الْمُقْرِيِّ عَنِ الشَّيْخِ

اور وہ روایت کرتے ہیں شیخ احمد المقری سے اور وہ روایت کرتے ہیں

عَبْدِ الْقَادِرِ الْفَاسِيِّ عَنِ الشَّيْخِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الْعَبَّاسِ

شیخ عبد القادر الفاسی سے اور وہ روایت کرتے ہیں شیخ احمد بن ابی العباس سے

عَنِ الشَّيْخِ السُّمَلَانِ عَنِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْعَزِيزِ

اور وہ روایت کرتے ہیں شیخ اسماعیل سے اور وہ روایت کرتے ہیں

الْقِبَاعِ عَنِ الشَّيْخِ الْإِمَامِ الْمُؤْلِفِ مُحَمَّدِ بْنِ

شیخ عبدالعزیز القباع سے اور وہ روایت کرتے ہیں اس کتاب کے مؤلف

سُلَيْمَانَ الْجَزُوَلِ الشَّاذِلِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى

حضرت شیخ امام محمد بن سلیمان الجزوی الشاذلی سے اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے

أَسْمَاءُ اللَّهِ الْحُسَنِي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ الْحَقُّ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

اے اللہ تو بادشاہ ہے برحق ہے تیرے سو اکوئی عبادت کے لا اکن نہیں

يَا اللَّهُ جَلَّ لَّهُ يَا رَحْمَنْ رَحِيمْ

اے اللہ جل جلالہ
اے رحمتی میریان

يَا مَلِكُ جَلَّ لَّهُ يَا قُدُّوسُ جَلَّ لَّهُ

اے حقیقی بادشاہ
اے سلامتی عطا کرنے والے

يَا مُؤْمِنْ جَلَّ لَّهُ يَا عَزِيزُ جَلَّ لَّهُ

اے امن عطا کرنے والے
اے سب پر غالب ذات

يَا جَبَارُ جَلَّ لَّهُ يَا مُتَكَبِّرُ جَلَّ لَّهُ

اے نوٹے دلوں کو جوڑنے والے
اے بڑے بیدار کرنے والے

يَا بَارِعُ جَلَّ لَّهُ يَا مُصَوِّرُ جَلَّ لَّهُ

اے کائنات کو بنانے والے
اے صورت بنانے والے

يَا قَهَّارُ جَلَّ لَّهُ يَا رَزَّاقُ جَلَّ لَّهُ

اے غائب والے
اے روزی دینے والے

يَا قَاطِفُ جَنَاحَةٍ

اے نعمتوں کے دروازے کھولنے والے اے سب کچھ جانشی والے

يَا بَاسِطُ جَنَاحَةٍ

اے خیر کے دروازوں کو کھولنے والے اے پست کرنے والے

يَا مُعِزٌ جَنَاحَةٍ

اے عزت دینے والے

يَا بَصِيرٌ جَنَاحَةٍ

اے دیکھنے والے

يَا طَيْفٌ جَنَاحَةٍ

اے برد پار

اے بڑے ہمراں

يَا حَلِيمٌ جَنَاحَةٍ

اے قدردان

يَا عَظِيمٌ جَنَاحَةٍ

اے عظمت والے

يَا عَلِيٌّ جَنَاحَةٍ

اے بند پروالے

يَا حَسِيبٌ جَنَاحَةٍ

اے سب سے بزرگ

يَا حَسِيبٌ جَنَاحَةٍ

اے قدرت عطا فرمانے والے

اے وہ ذات جو سب کے لئے کافی ہے

يَا حَسِيبٌ جَنَاحَةٍ

اے کرم کرنے والے

اے دعاوں کو قبول کرنے والے

يَا وَادُودٌ جَلَّ لَهُ اے بہت زیادہ محبت کرنے والے	يَا حَكِيمٌ جَلَّ لَهُ اے عکت والے	يَا وَاسِعٌ جَلَّ لَهُ اے فراشی عطا کرنے والے
يَا شَهِيدُ جَلَّ لَهُ اے گواہ	يَا بَاعِثُ جَلَّ لَهُ اے رسولوں کو پھینے والے	يَا مَجِيدُ جَلَّ لَهُ اے بزرگی والے
يَا قَوْمٌ جَلَّ لَهُ اے قوت والے	يَا وَكِيلٌ جَلَّ لَهُ اے کارساز	يَا حَقٌّ جَلَّ لَهُ اے برق
يَا حَمِيدُ جَلَّ لَهُ اے حمد و شاء کے لائق	يَا وَالِّيُّ جَلَّ لَهُ اے دوست	يَا مَتِينٌ جَلَّ لَهُ اے مضبوط
يَا مُحْصِنٌ جَلَّ لَهُ اے ہر چیز کو گیرنے والے	يَا مُبَدِّيُّ جَلَّ لَهُ اے آغاز کرنے والے	يَا مُعِيدٌ جَلَّ لَهُ اے دوبارہ زندگی عطا کرنے والے
يَا حَمْيٌ جَلَّ لَهُ اے زندہ	يَا مُمِيتٌ جَلَّ لَهُ اے موت دینے والے	يَا مُمْحٰيٌ جَلَّ لَهُ اے زندہ کرنے والے
يَا مَاجِدٌ جَلَّ لَهُ اے بزرگ ذات	يَا وَاجِدٌ جَلَّ لَهُ اے پانے والے	يَا قَيْوُمٌ جَلَّ لَهُ اے بیشتر بننے والے
يَا صَمَدٌ جَلَّ لَهُ اے بے نیاز	يَا أَحَدٌ جَلَّ لَهُ اے تجا	يَا وَاحِدٌ جَلَّ لَهُ اے اکیل
يَا مَقْدِمٌ جَلَّ لَهُ اے آگے بڑھانے والے	يَا مُفْتَدِرٌ جَلَّ لَهُ اے تقدیر بنانے والے	يَا قَادِرٌ جَلَّ لَهُ اے قدرت رکھنے والے

يَا مُؤَخِّرُ جَلَلَهُ يَا أَوَّلُ جَلَلَهُ يَا أَخْرُ جَلَلَهُ يَا ظَاهِرُ جَلَلَهُ

اے چھپ کرنے والے اے اول اے آخر اے ظاہر

يَا بَاطِنُ جَلَلَهُ يَا وَالِ جَلَلَهُ يَا مُتَعَالٌ جَلَلَهُ يَا بُرُّ جَلَلَهُ

اے باطن (پوشیدہ) اے دارث اے سب سے برتر اے نیکوں کی مدفرمانے والے

يَا تَوَابُ جَلَلَهُ يَا مُنْعِمٌ جَلَلَهُ يَا مُنْتَقِمٌ جَلَلَهُ يَا عَفُوًّ جَلَلَهُ

اے تو بقول فرمانے والے اے نعمتیں عطا کرنے والے اے بدله لینے والے اے معاف فرمائے والے

يَا رَءُوفُ جَلَلَهُ يَا مَالِكَ الْمُلْكِ جَلَلَهُ يَا ذَالْجَلَلِ وَالْأَكْرَامِ جَلَلَهُ

اے بہت مہربان اے دوچھاں کے ماں اے بزرگی اور اکرام والے

يَا رَبُّ جَلَلَهُ يَا مُقْسِطٍ جَلَلَهُ يَا جَامِعٍ جَلَلَهُ يَا غَنِيًّا جَلَلَهُ

اے رب اے انصاف فرمائے والے اے سب کو جمع فرمانے والے اے بے نیاز

يَا مُغْنِي جَلَلَهُ يَا مُعْطِي جَلَلَهُ يَا مَانِعٍ جَلَلَهُ يَا ضَارُّ جَلَلَهُ

اے بے نیاز فرمانے والے اے عطا فرمانے والے اے باز رکھنے والے اے نقصان دینے والے

يَا نَافِعٌ جَلَلَهُ يَا نُورٌ جَلَلَهُ يَا هَادِيٌّ جَلَلَهُ يَا بَدِيعٌ جَلَلَهُ

اے روشنی والے اے رہنمائی فرمائے والے اے از سرفو پیدا کرنے والے

يَا بَاقِي جَلَلَهُ يَا وَارِثُ جَلَلَهُ يَا رَشِيدُ جَلَلَهُ يَا صَبُورُ جَلَلَهُ

اے بہیشہ بہیشر ہٹنے والے اے ماں اے صحیح تدبیر کرنے والے اے بہت زمادہ تھی والے

يَا صَادِقٌ جَلَلَهُ يَا سَتَّارٌ جَلَلَهُ

اے عیوب کو چھیانے والے اے سچے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع ہو بے حد بہان نہایت رحم کرنے والا ہے

إِلَهُي إِعْجَادُ نِيَّتِكَ سَيِّدُنَا مُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اے اللہ اپنے نبی کرم ﷺ کے اس منصب کے طفیل جو ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ کو تیری بارگاہ میں

عِنْدَكَ وَمَكَانَتِهِ لَدَيْكَ وَمَحَبَّتِكَ لَهُ وَمَحَبَّتِهِ لَكَ

حاصل ہے اور تیری اس محبت کے طفیل جو تجھے ان کے ساتھ ہے اور اس محبت کے صدقے جو انہیں تیرے ساتھ ہے

وَبِالسِّرِّ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ أَسْئُلُكَ أَنْ تُصَلِّي وَتُسَلِّمَ

اور اس راز و نیاز کے واسطے جو تیرے اور ان کے درمیان ہے میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں کہ تو ان پر

عَلَيْهِ وَعَلَى إِلَهٍ وَصَاحِبِهِ وَضَاعِفِ اللَّهُمَّ مَحَبَّتِي فِيهِ

ان کی آں اصحاب پر درود و سلام بخیج اے اللہ آپ ﷺ کے ساتھ میری محبت میں اضافہ فرماؤ مجھے

وَعَرِفْنِي بِحَقِّهِ وَرُتِّبِهِ وَوَفْقْنِي لِتَبْاعَهُ وَالْقِيَامِ بِأَدِبِهِ

آپ ﷺ کے حقوق اور مراتب کی معرفت عطا فرم اور مجھے آپ ﷺ کی اتباع، آپ کی بارگاہ کے آداب

وَسُنْتِهِ وَاجْمَعْنَى عَلَيْهِ وَمَتَعْنَى بِرُوْيَتِهِ وَأَسْعَدْنِي

اور آپ ﷺ کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرم اور مجھے آپ کی بارگاہ میں حاضری اور آپ ﷺ کے دہراں

بِمُكَالَمَتِهِ وَأَرْفَعْ عَنِ الْعَوَاقِ وَالْعَلَاءِ وَالْوَسَائِطَ وَالْحِجَابَ

کے شرف سے مشرف فرم اور مجھے آپ ﷺ سے ہم کام ہونے کی سعادت نصیب فرم اور مجھے سے تمام رکاوٹوں،

وَشَنِفْ سَمِعِي مَعَهُ بِلَذِيذِ الْخَطَابِ وَهَدَنِي لِلثَّلَقَى مِنْهُ

تعلقات، واطلوں اور حجیبات کو در فرمادے اور میرے کافوں کو آپ کے ساتھ کئے جانے والے دلکش خطاب سنوادے

وَأَهْلِنِي لِيُخْدِمْتِهِ وَاجْعَلْ صَلَاتِي عَلَيْهِ نُورًا نَسِيرًا كَامِلًا

اور مجھ میں آپ سے ملاقات کی استعداد پیدا فرمادے اور مجھے آپ کی خدمت گزاری کا بہل بنادے اور آپ کی بارگاہ

مُكَبِّلاً طَاهِرًا مُظَهِّرًا مَاحِيَا كُلَّ ظُلْمٍ وَظُلْمَةٍ وَشَكِّ

میں پیش کئے جانے والے میرے درود شریف کو چکتا دیتا، کامل و مکمل، طاہر و مظہر نور بنادے جو ہر ظلم و ظلمت،

وَشَرِيكَ وَكُفُرِ وَزُورِ وَوِزِيرِ وَاجْعَلْهَا سَبَبًا لِلتَّبَرِيعِ وَمَرْقَى

شک و شرک جھوٹ اور گناہ اور کفر کو منادے اور میرے اس درود شریف کو میرے لئے خلوص و ترقی کا سبب بنادے

لَا تَأْلِيهَا أَعْلَى مَقَامِ الْإِحْلَالِ وَالْتَّخْصِيصِ حَتَّى لَا يَنْفَعُ

تاکہ میں اس کے ذریعہ اخلاص و تخصیص کے اعلیٰ مقام تک رسائی حاصل کروں یہاں تک کہ مجھ میں تیرے غیر کی

فِي رَبَّابِيَّةِ لِغَيْرِكَ وَحَتَّى أَصْلُحَ لِحَضْرَتِكَ وَأَكُونَ مِنْ

عبدات کی صلاحیت باقی نہ رہے اور یہاں تک کہ میں تیرے بارگاہ میں حاضری کے لائق ہو جاؤں اور تیرے

أَهْلِ خُصُوصِيَّتِكَ مُسْتَمِسِكًا بِأَدِيَّهِ وَسُنْنَتِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ

محسوس بندوں میں شامل ہو جاؤں ادب اور سنت کے تقاضوں کو بلوغ رکھتے ہوئے ان سے چوتھے اور پیٹھے جاؤں

وَسَلَّمَ مُسْتَمِدًا مِنْ حَضَرَتِهِ الْعَالِيَّةِ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَحِينِ

ان پر اللہ کی طرف سے درود و سلام ہواندیں ان کی بارگاہ کی برکت سے ہمہ وقت اور ہر زمانے میں تجھے سے مدد و طلب کرتا رہوں

يَا اللَّهُ يَا نُورُ يَا حَقُّ يَا مُمِينُ يَا اللَّهُ يَا نُورُ يَا حَقُّ يَا مُمِينُ

اے اللہ اے نور اے حق اے ممین اے اللہ اے نور اے حق اے ممین

يَا اللَّهُ يَا نُورُ يَا حَقُّ يَا مُمِينُ

اے اللہ اے نور اے حق اے ممین

أَسْمَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ

الشَّعْلَى فَرِمَتْ بِهِ بِنْ عَوْنَادُوكَارَاسَ كَفَرَتْ بِهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) پُرِدو دُجِيجَتْ بِهِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾

تو اے ایمان و اوقم بھی نبی (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) پُرِدو دُو سلام پیشجو

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسِلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مَنْ أَسْمَيْتَ سَيِّدَنَا

اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ صلوا وسلام اور برکتیں نازل فرماس ذات پر جن کا نام سیدنا محمد (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ہے،

مُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا أَحْمَدُ

ہمارے آقا (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) جو اللہ کی خوب تعریف کرنے والے ہیں، ہمارے آقا (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) جو اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں،

حَامِدُ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِنَا أَحِيدُ

ہمارے آقا (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) جو تعریف کے لائق ہیں، ہمارے آقا (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) جو (وزخ سے) بر طرف کرنے والے ہیں

سَيِّدِنَا وَحِيدُ سَيِّدِنَا مَاجِ سَيِّدِنَا حَاشِرُ

ہمارے آقا (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) جو کہتا ہے زمانہ ہیں، ہمارے آقا (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) جو کفر کو منانے والے ہیں، ہمارے آقا (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) جو

سَيِّدِنَا عَاقِبُ سَيِّدِنَا طَهُ سَيِّدِنَا

محشر میں لانے والے ہیں، ہمارے آقا جو سب نبیوں کے بعد آنے والے ہیں (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، ہمارے آقا طہ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

یَسِّرْ دَنَا طَاهِرٌ سَيِّدُنَا مُطَهَّرٌ

ہمارے آقا یسوس علیہ السلام، ہمارے آقا مسیح علیہ السلام جو پاکیزہ ہیں، ہمارے آقا مسیح علیہ السلام جو طہر ہیں،

سَيِّدُنَا طَيِّبٌ سَيِّدُنَا سَيِّدُنَا رَسُولُ

ہمارے آقا مسیح علیہ السلام جو طیب ہیں، ہمارے آقا مسیح علیہ السلام جو سردار ہیں، ہمارے آقا مسیح علیہ السلام جو رسول ہیں،

سَيِّدُنَا رَبِّنَا رَحْمَةُ سَيِّدُنَا رَسُولُ الرَّحْمَةِ

ہمارے آقا مسیح علیہ السلام جو رب ہیں، ہمارے آقا مسیح علیہ السلام جو رحم ہیں،

سَيِّدُنَا جَامِعٌ سَيِّدُنَا قَبْرٌ سَيِّدُنَا مَقْتَفٍ

ہمارے آقا مسیح علیہ السلام جو جامع ہیں، ہمارے آقا مسیح علیہ السلام جو گھبائیں ہیں، ہمارے آقا مسیح علیہ السلام جو خاتم الرسل،

سَيِّدُنَا مَقْفٍ سَيِّدُنَا رَسُولُ الْمَلَاحِمِ

ہمارے آقا مسیح علیہ السلام جو سب انبیاء سے آخر میں آنے والے ہیں، ہمارے آقا مسیح علیہ السلام جو معرکوں والے ہیں،

سَيِّدُنَا رَسُولُ الرَّاحَةِ سَيِّدُنَا كَامِلٌ

ہمارے آقا مسیح علیہ السلام جو رسول راحت ہیں، ہمارے آقا مسیح علیہ السلام جو صاحب کمال ہیں،

سَيِّدُنَا إِكْلِيلٌ سَيِّدُنَا مُدَّثِّرٌ

ہمارے آقا مسیح علیہ السلام جو تاج ہیں، ہمارے آقا مسیح علیہ السلام جو مدثر ہیں،

سَيِّدُنَا مُزَّمِّلٌ سَيِّدُنَا عَبْدُ اللَّهِ

ہمارے آقا مسیح علیہ السلام جو مزمول ہیں، ہمارے آقا مسیح علیہ السلام جو اللہ کے بندے ہیں، ہمارے آقا مسیح علیہ السلام جو

حَبِيبُ اللَّهِ سَيِّدُنَا صَفْحُ اللَّهِ سَيِّدُنَا

اللہ کے حبیب ہیں، ہمارے آقا مسیح علیہ السلام جو اللہ کے برگزیدہ ہیں، ہمارے آقا مسیح علیہ السلام جو

نَحْنُ اللَّهُ كَلِيمُ اللَّهِ سَيِّدُنَا سَيِّدُنَا

اللَّهُ كَمَّا هُوَ إِلَيْنَا بُشِّرَ بِاللَّهِ مَنْ يَعْمَلُ مَا شَاءَ

خَاتَمُ الْأَنْبِيَا سَيِّدُنَا سَيِّدُنَا خَاتَمُ الرَّسُولِ

آخْرِيَّ تَبَّعَنِيْ بِهِ مَنْ يَرَى فَلَمْ يَرِيْ

سَيِّدُنَا مُحَمَّدُ سَيِّدُنَا سَيِّدُنَا مُنْجِ سَيِّدُنَا سَيِّدُنَا مُذَكِّرٌ

هَمَارَ آقَاسِيَّتِيْ جَوَدِيْنَ كَوَزَنَدَهَ كَرَنَهَ دَالِيْنَ، هَمَارَ آقَاسِيَّتِيْ جَوَنَجَاتَ دَهَنَدَهَ بَيْنَ، هَمَارَ آقَاسِيَّتِيْ جَوَ

سَيِّدُنَا سَيِّدُنَا نَاصِرٌ سَيِّدُنَا سَيِّدُنَا مَنْصُورٌ

فَسِيَّحَتَ كَرَنَهَ دَالِيْنَ، هَمَارَ آقَاسِيَّتِيْ جَوَدَدَهَرَ بَيْنَ، هَمَارَ آقَاسِيَّتِيْ جَوَمَدَهَرَ يَافَتَهَ بَيْنَ،

سَيِّدُنَا نَبِيُّ الرَّحْمَةِ سَيِّدُنَا نَبِيُّ التَّوْبَةِ

هَمَارَ آقَاسِيَّتِيْ جَوَرَجَتَهَ دَالِيْنَ، هَمَارَ آقَاسِيَّتِيْ جَوَتَهَ بَكَهَ دَرَوازَهَ كَهَوَنَهَ دَالِيْنَ،

سَيِّدُنَا حَرِيصُ عَلَيْكُمْ سَيِّدُنَا مَعْلُومٌ

هَمَارَ آقَاسِيَّتِيْ جَوَتَهَرَهَ بَهَبُودَهَ كَهَرِيَصَهَ بَيْنَ، هَمَارَ آقَاسِيَّتِيْ جَوَنَجَهَرَهَ بَهَجَجَهَ بَيْنَ،

سَيِّدُنَا شَهِيرٌ سَيِّدُنَا شَاهِدٌ سَيِّدُنَا

هَمَارَ آقَاسِيَّتِيْ جَوَشَهُورَهَ بَيْنَ، هَمَارَ آقَاسِيَّتِيْ جَوَگَاهَهَ دَيَنَهَ دَيَنَهَ بَيْنَ، هَمَارَ آقَاسِيَّتِيْ جَوَ

شَهِيدٌ سَيِّدُنَا مَشْهُودٌ سَيِّدُنَا بَشِيرٌ

گَواهَ بَيْنَ، هَمَارَ آقَاسِيَّتِيْ جَوَیَسَهَ بَيْنَ كَجَنَ کَجَنَ دَهِيَ دَهِيَ، هَمَارَ آقَاسِيَّتِيْ جَوَخَبَرَهَ سَانَهَ دَالِيْنَ،

سَيِّدُنَا مُبَشِّرٌ سَيِّدُنَا نَذِيرٌ سَيِّدُنَا مُنْذِرٌ

هَمَارَ آقَاسِيَّتِيْ جَوَبَشَارَتَهَ دَيَنَهَ دَيَنَهَ بَيْنَ، هَمَارَ آقَاسِيَّتِيْ جَوَرَانَهَ دَالِيْنَ، هَمَارَ آقَاسِيَّتِيْ جَوَ

سَيِّدُنَا نُورٌ سَيِّدُنَا سِرَاجٌ سَيِّدُنَا سِرَاجًا

دھکانے والے ہیں، ہمارے آقاصلی اللہ علیہ جو نور ہیں، ہمارے آقاصلی اللہ علیہ جو چراغ ہیں، ہمارے آقاصلی اللہ علیہ جو

مِصْبَاحٌ سَيِّدُنَا هُدًی سَيِّدُنَا مَهْدِیٌ

روشن چراغ ہیں، ہمارے آقاصلی اللہ علیہ جو سرتابا پاہدایت ہیں، ہمارے آقاصلی اللہ علیہ جو بہادیرت یافتہ ہیں،

سَيِّدُنَا مُنْبِرٌ سَيِّدُنَا دَاعٍ سَيِّدُنَا مَدْعُوٌ

ہمارے آقاصلی اللہ علیہ جو منور کرنے والے ہیں، ہمارے آقاصلی اللہ علیہ جو (اللہ کی طرف) بلانے والے ہیں، ہمارے آقاصلی اللہ علیہ جو

سَيِّدُنَا مُجِيبٌ سَيِّدُنَا مُجَابٌ سَيِّدُنَا حَفِیْ

بلائے ہوئے ہیں، ہمارے آقاصلی اللہ علیہ جو رخواست منظور کرنے والے ہیں، ہمارے آقاصلی اللہ علیہ جو مقبول خدا ہیں،

سَيِّدُنَا عَفْوٌ سَيِّدُنَا وَلِيٌ سَيِّدُنَا حَقٌّ

ہمارے آقاصلی اللہ علیہ جو عنایت فرمانے والے ہیں، ہمارے آقاصلی اللہ علیہ جو معافی کے خواگر ہیں، ہمارے آقاصلی اللہ علیہ جو

سَيِّدُنَا قَوِيٌّ سَيِّدُنَا أَمِينٌ سَيِّدُنَا

ولی ہیں، ہمارے آقاصلی اللہ علیہ جو برحق ہیں، ہمارے آقاصلی اللہ علیہ جو قوت والے ہیں، ہمارے آقاصلی اللہ علیہ جو حماست دار ہیں،

مَامُونٌ سَيِّدُنَا كَرِيمٌ سَيِّدُنَا مُكَرَّمٌ

ہمارے آقاصلی اللہ علیہ جو پرواۃ ان والے ہیں، ہمارے آقاصلی اللہ علیہ جو کریم ہیں، ہمارے آقاصلی اللہ علیہ جو محترم ہیں،

سَيِّدُنَا مَكِيْنٌ سَيِّدُنَا مَتِيْنٌ سَيِّدُنَا مُمِيْنٌ

ہمارے آقاصلی اللہ علیہ جو ذری دیت ہیں، ہمارے آقاصلی اللہ علیہ جو ممتاز والے ہیں، ہمارے آقاصلی اللہ علیہ جو واسخ ہیں،

سَيِّدُنَا مَوْمَلٌ سَيِّدُنَا وَصُولٌ سَيِّدُنَا

ہمارے آقاصلی اللہ علیہ جو رضاۓ مولیٰ کے متین ہیں، ہمارے آقاصلی اللہ علیہ جو اللہ سے ملنے والے ہیں،

ذُو قُوَّةٍ سَيِّدُنَا ذُو حُرْمَةٍ سَيِّدُنَا ذُو مَكَانَةٍ

ہمارے آقاصیل اللہ جم جو طاقت والے ہیں، ہمارے آقاصیل اللہ جم جو رحمت ہیں، ہمارے آقاصیل اللہ جم جو

سَيِّدُنَا ذُو عَزِّ سَيِّدُنَا ذُو فَضْلٍ سَيِّدُنَا

صاحب مزرات ہیں، ہمارے آقاصیل اللہ جم جو عزت والے ہیں، ہمارے آقاصیل اللہ جم جو فضیلت والے ہیں،

مُطَاعٌ سَيِّدُنَا مُطْبِعٌ سَيِّدُنَا قَدْمٌ صِدْقٌ

ہمارے آقاصیل اللہ جن کی اطاعت کی جاتی ہے، ہمارے آقاصیل اللہ جو اللہ کے فرماں بردار ہیں، ہمارے آقاصیل اللہ جو

سَيِّدُنَا رَحْمَةً سَيِّدُنَا بُشْرَى سَيِّدُنَا غَيْرًا سَيِّدُنَا

صداقت کے امام ہیں، ہمارے آقاصیل اللہ جم جو رحمت ہیں، ہمارے آقاصیل اللہ جم جو خوشخبری ہیں، ہمارے آقاصیل اللہ جم جو

غَوْثٌ سَيِّدُنَا غَيْثٌ سَيِّدُنَا غَيَاثٌ سَيِّدُنَا

فریادوں ہیں، ہمارے آقاصیل اللہ جم جو رحمت کی بارش ہیں، ہمارے آقاصیل اللہ جم جو فریادی کرنے والے ہیں،

سَيِّدُنَا نِعْمَةُ اللَّهِ سَيِّدُنَا هَدِيَّةُ اللَّهِ سَيِّدُنَا

ہمارے آقاصیل اللہ جم جو اللہ کی نعمت ہیں، ہمارے آقاصیل اللہ جم جو اللہ کا هدیہ ہیں، ہمارے آقاصیل اللہ جم جو

عُرُوَةٌ وَثُقُولٌ سَيِّدُنَا صِرَاطُ اللَّهِ سَيِّدُنَا

مشبوط سہارا ہیں، ہمارے آقاصیل اللہ جم جو اللہ کی بارگاہ تک رسائی کا راست ہیں، ہمارے آقاصیل اللہ جم جو

صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ سَيِّدُنَا ذُكْرُ اللَّهِ سَيِّدُنَا

راہ مستقیم ہیں، ہمارے آقاصیل اللہ جم جو یاد خدا ہیں، ہمارے آقاصیل اللہ جم جو

سَيْفُ اللَّهِ سَيِّدُنَا حِزْبُ اللَّهِ سَيِّدُنَا

ششیر خدا ہیں، ہمارے آقاصیل اللہ جم جو لکھرائی ہیں، ہمارے آقاصیل اللہ جم جو

النَّجْمُ الْثَّاقِبُ سَيِّدُنَا مُصَطَّفِي سَيِّدُنَا

چکلت سارہ ہیں، ہمارے آقاصیل شریعت جو رگزیدہ ہیں، ہمارے آقاصیل شریعت جو

مُجْتَبُي سَيِّدُنَا مُنْتَقِي سَيِّدُنَا أُمَّهَيْ

منتخب ہیں، ہمارے آقاصیل شریعت جو اللہ کا انتخاب کئے ہوئے ہیں، ہمارے آقاصیل شریعت جو امی ہیں،

سَيِّدُنَا مُخْتَارُ سَيِّدُنَا أَجْيَرُ سَيِّدُنَا جَبَارُ

ہمارے آقاصیل شریعت جو پندیدہ ہیں، ہمارے آقاصیل شریعت جو حق اجر ہیں، ہمارے آقاصیل شریعت جو

سَيِّدُنَا أَبُو الْقَاسِمِ سَيِّدُنَا أَبُو الطَّاهِرِ

حلانی فرمائے والے ہیں، ہمارے آقاصیل شریعت جو ابو القاسم ہیں، ہمارے آقاصیل شریعت جو ابو الطاهر ہیں،

سَيِّدُنَا أَبُو الطَّيْبِ سَيِّدُنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ

ابوالطہر ہیں، ہمارے آقاصیل شریعت جو ابو الطیب ہیں، ہمارے آقاصیل شریعت جو ابو ابراهیم ہیں،

سَيِّدُنَا مُشَفَّعُ سَيِّدُنَا شَفِيعُ

ہمارے آقاصیل شریعت جن کی شفاعت قبول کی جائے گی، ہمارے آقاصیل شریعت جو شفاعت کرنے والے ہیں،

سَيِّدُنَا صَالِحُ سَيِّدُنَا مُصْلِحُ سَيِّدُنَا

ہمارے آقاصیل شریعت جو نیک ہیں، ہمارے آقاصیل شریعت جو اصلاح کرنے والے ہیں، ہمارے آقاصیل شریعت جو

مُهَمَّيْمُنُ سَيِّدُنَا صَادِقُ سَيِّدُنَا مُصَدَّقُ

محافظ ہیں، ہمارے آقاصیل شریعت جو سچے ہیں، ہمارے آقاصیل شریعت جو مصدقین کرنے والے ہیں،

سَيِّدُنَا صِدْقُ سَيِّدُنَا سَيِّدُ الْمُرْسَلِيْنَ

ہمارے آقاصیل شریعت جو حسکم تج ہیں، ہمارے آقاصیل شریعت جو تمام انبیاء علیہم السلام کے سردار ہیں،

سَيِّدُنَا إِمَامُ الْمُتَّقِينَ

ہمارے آقاسِنَاتِيِّ جو متنیوں کے امام ہیں، ہمارے آقاسِنَاتِيِّ جو اعضاً و ضوچنے والوں کے قائد ہیں،

الْمُحَاجِلِينَ

ہمارے آقاسِنَاتِيِّ جو حسن کے خلیل ہیں، ہمارے آقاسِنَاتِيِّ

بَرٌّ

خوش معاملہ ہیں، ہمارے آقاسِنَاتِيِّ جو سب پر فائز ہیں، ہمارے آقاسِنَاتِيِّ جو بادجاشت ہیں،

سَيِّدُنَا نَصِيْحٍ

ہمارے آقاسِنَاتِيِّ جو خیر طلب کرنے والے ہیں، ہمارے آقاسِنَاتِيِّ جو خیر خواہ ہیں، ہمارے آقاسِنَاتِيِّ جو

وَكِيلٌ

معتمد ہیں، ہمارے آقاسِنَاتِيِّ جو توکل والے ہیں، ہمارے آقاسِنَاتِيِّ جو حشامن ہیں،

سَيِّدُنَا شَفِيقٌ

ہمارے آقاسِنَاتِيِّ جو مہربان ہیں، ہمارے آقاسِنَاتِيِّ جو سوت کے قائم کرنے والے ہیں،

سَيِّدُنَا مُقَدَّسٌ

ہمارے آقاسِنَاتِيِّ جو قدس والے ہیں، ہمارے آقاسِنَاتِيِّ جو قدس کی جان ہیں، ہمارے آقاسِنَاتِيِّ جو

رُوحُ الْحَقِّ

امرُّت کی روح ہیں، ہمارے آقاسِنَاتِيِّ جو انصاف کی روح ہیں، ہمارے آقاسِنَاتِيِّ جو کفایت کرنے والے ہیں،

كَافِ

ہمارے آقاسِنَاتِيِّ جو کافی ہیں، ہمارے آقاسِنَاتِيِّ جو کمالات کے اعلیٰ مقام پر چلچھ والے ہیں،

سَيِّدُنَا مُبَلِّغٌ ﷺ سَيِّدُنَا شَافِٰ ؓ سَيِّدُنَا وَاصِلٌ

ہمارے آقاسِنَاتِ الْجَاهِ جو تخفی کرنے والے ہیں، ہمارے آقاسِنَاتِ الْجَاهِ جو شافی ہیں، ہمارے آقاسِنَاتِ الْجَاهِ جو اللہ کی

سَيِّدُنَا مَوْصُولٌ ؓ سَيِّدُنَا سَابِقٌ ؓ سَيِّدُنَا

پارگاہ میں رسانی حاصل کرنے والے ہیں، ہمارے آقاسِنَاتِ الْجَاهِ جو پرست ہوئے ہیں، ہمارے آقاسِنَاتِ الْجَاهِ جو سب سے

سَائِقٌ ؓ سَيِّدُنَا هَادِ ؓ سَيِّدُنَا مُهَدِّيٌّ ؓ

اول ہیں، ہمارے آقاسِنَاتِ الْجَاهِ جو آگے بڑھانے والے ہیں، ہمارے آقاسِنَاتِ الْجَاهِ جو ہر ہر ہیں، ہمارے آقاسِنَاتِ الْجَاهِ جو

سَيِّدُنَا مُقَدَّمٌ ؓ سَيِّدُنَا عَزِيزٌ ؓ سَيِّدُنَا فَاضِلٌ

تحفہ دینے والے ہیں، ہمارے آقاسِنَاتِ الْجَاهِ جو سب سے آگے ہیں، ہمارے آقاسِنَاتِ الْجَاهِ جو عزیز ہیں،

سَيِّدُنَا مُفَضَّلٌ ؓ سَيِّدُنَا فَاتِحٌ ؓ سَيِّدُنَا

ہمارے آقاسِنَاتِ الْجَاهِ جو صاحبِ فضل ہیں، ہمارے آقاسِنَاتِ الْجَاهِ جو فضیلت والے ہیں، ہمارے آقاسِنَاتِ الْجَاهِ جو

مِفْتَاحُ الرَّحْمَةِ ؓ سَيِّدُنَا مِفْتَاحُ الرَّحْمَةِ ؓ سَيِّدُنَا

فاتح ہیں، ہمارے آقاسِنَاتِ الْجَاهِ جو قدرت کی چالی ہیں، ہمارے آقاسِنَاتِ الْجَاهِ جو کلیدِ رحمت ہیں،

مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ ؓ سَيِّدُنَا عَلَمُ الْإِيمَانِ ؓ سَيِّدُنَا

ہمارے آقاسِنَاتِ الْجَاهِ جو حیثت کی چالی ہیں، ہمارے آقاسِنَاتِ الْجَاهِ جو ایمان کے نقش و نگار ہیں،

عَلَمُ الْيَقِيْنِ ؓ سَيِّدُنَا دَلِيلُ الْخَيْرَاتِ ؓ

ہمارے آقاسِنَاتِ الْجَاهِ جو یقین کی علمت ہیں، ہمارے آقاسِنَاتِ الْجَاهِ جو خوبیوں کے راہنماء ہیں،

سَيِّدُنَا مُصَحِّحُ الْحَسَنَاتِ ؓ سَيِّدُنَا مُقِيلُ

ہمارے آقاسِنَاتِ الْجَاهِ جو نکیوں کے درست کرنے والے ہیں، ہمارے آقاسِنَاتِ الْجَاهِ جو غلطیوں سے

العَشَرَاتِ ﷺ سَيِّدُنَا صَفْوَحٌ عَنِ الرَّزَّالِ ﷺ

قطع نظر کرنے والے ہیں، ہمارے آقاصِ شفاعة جو انہوں نے درگز رکرنے والے ہیں،

سَيِّدُنَا صَاحِبُ الشَّفَاعَةِ ﷺ سَيِّدُنَا صَاحِبُ الْمَقَامِ

ہمارے آقاصِ شفاعة جو صاحب شفاعت ہیں، ہمارے آقاصِ شفاعة جو مقامِ حجود والے ہیں،

سَيِّدُنَا صَاحِبُ الْقَدَمِ ﷺ سَيِّدُنَا مَخْصُوصٌ

ہمارے آقاصِ شفاعة جو پیشوائی فرمانے والے ہیں، ہمارے آقاصِ شفاعة جو عزت کے ساتھ مخصوص ہیں،

بِالْعِزَّةِ ﷺ سَيِّدُنَا مَخْصُوصٌ بِالْمَجْدِ ﷺ سَيِّدُنَا

ہمارے آقاصِ شفاعة جو احترام کے ساتھ مخصوص ہیں،

مَخْصُوصٌ بِالشَّرَفِ ﷺ سَيِّدُنَا صَاحِبُ الْوَسِيلَةِ

ہمارے آقاصِ شفاعة جو شرف کے ساتھ مخصوص ہیں، ہمارے آقاصِ شفاعة جو وسیلہ والے ہیں،

سَيِّدُنَا صَاحِبُ السَّيْفِ ﷺ سَيِّدُنَا صَاحِبُ

ہمارے آقاصِ شفاعة جو تواریخ والے ہیں، ہمارے آقاصِ شفاعة جو فضیلت والے ہیں،

الْفَضِيلَةِ ﷺ سَيِّدُنَا صَاحِبُ الْإِزارِ ﷺ سَيِّدُنَا

ہمارے آقاصِ شفاعة جو تہبہ نہ استعمال فرمانے والے ہیں، ہمارے آقاصِ شفاعة جو

صَاحِبُ الْحُجَّةِ ﷺ سَيِّدُنَا صَاحِبُ السُّلْطَانِ ﷺ

مسئام دلیل والے ہیں، ہمارے آقاصِ شفاعة جو سلطاط والے ہیں،

سَيِّدُنَا صَاحِبُ الرِّدَاءِ ﷺ سَيِّدُنَا صَاحِبُ الدَّرَجَةِ

ہمارے آقاصِ شفاعة جو چادر والے ہیں، ہمارے آقاصِ شفاعة جو اوپر پر تبدیل والے ہیں،

الرَّفِيعَةُ سَيِّدُنَا صَاحِبُ التَّاجِ سَيِّدُنَا

ہمارے آقاسِ نبیِّم جو تاج والے ہیں، ہمارے آقاسِ نبیِّم جو

صَاحِبُ الْبَغْفَرِ سَيِّدُنَا صَاحِبُ الْلَّوَاءِ

آئتی خود والے ہیں، ہمارے آقاسِ نبیِّم جو علم بردار ہیں،

سَيِّدُنَا صَاحِبُ الْبَعْرَاجِ سَيِّدُنَا صَاحِبُ

ہمارے آقاسِ نبیِّم جو صاحب میراں ہیں، ہمارے آقاسِ نبیِّم جو صاحب عصا ہیں،

الْقَضِيبُ سَيِّدُنَا صَاحِبُ الْبَرَاقِ سَيِّدُنَا

ہمارے آقاسِ نبیِّم جو براق والے ہیں، ہمارے آقاسِ نبیِّم جو

صَاحِبُ الْخَاتِمِ سَيِّدُنَا صَاحِبُ الْعِلَامَةِ

مہربنوت والے ہیں، ہمارے آقاسِ نبیِّم جو نشانی والے ہیں،

سَيِّدُنَا صَاحِبُ الْبُرْهَانِ سَيِّدُنَا صَاحِبُ الْبَيَانِ

ہمارے آقاسِ نبیِّم جو ثبوت رکھنے والے ہیں، ہمارے آقاسِ نبیِّم جو حسن تقریر والے ہیں،

سَيِّدُنَا فَصِيحُ الْلِسَانِ سَيِّدُنَا مُظَهَّرُ الْجَنَانِ

ہمارے آقاسِ نبیِّم جو صحیح زبان ہیں، ہمارے آقاسِ نبیِّم جو پاک دل والے ہیں،

سَيِّدُنَا رَعْوَفُ سَيِّدُنَا رَحِيمُ سَيِّدُنَا

ہمارے آقاسِ نبیِّم جو نرم دل ہیں، ہمارے آقاسِ نبیِّم جو حرم دل ہیں، ہمارے آقاسِ نبیِّم جو

أَذْنُ خَيْرٍ سَيِّدُنَا صَحِيحُ الْإِسْلَامِ سَيِّدُنَا

بھائی کی بات پر کان دھرنے والے ہیں، ہمارے آقاسِ نبیِّم جو درست اسلام والے ہیں، ہمارے آقاسِ نبیِّم جو

سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ سَيِّدُنَا عَيْنُ النَّعِيمِ سَيِّدُنَا سَيِّدُنَا

دونوں جہانوں کے سردار ہیں، ہمارے آقاصِ الْجَنَّةِ جو اموتوں کا سچ شہر ہیں، ہمارے آقاصِ الْجَنَّةِ جو

عَيْنُ الْغَرِ سَيِّدُنَا سَعْدُ اللَّهِ سَيِّدُنَا سَعْدُ

بہترین لوگوں کے سردار ہیں، ہمارے آقاصِ الْجَنَّةِ جو اللہ کی طرف سے برکت ہیں، ہمارے آقاصِ الْجَنَّةِ جو

الْخَلْقِ سَيِّدُنَا حَطَبِيْبُ الْأَمْمِ سَيِّدُنَا عَلَمُ

جو تم مخلوق کے لئے سب سعادت ہیں، ہمارے آقاصِ الْجَنَّةِ جو اموتوں کے واعظ ہیں، ہمارے آقاصِ الْجَنَّةِ جو

الْهُدْيِ سَيِّدُنَا كَاشِفُ الْكُرْبَابِ سَيِّدُنَا رَافِعُ

ہدایت کا عالم ہیں، ہمارے آقاصِ الْجَنَّةِ جو دفع مصائب کا ذریعہ ہیں، ہمارے آقاصِ الْجَنَّةِ جو رفق درجات کا وسیلہ ہیں،

الرُّتْبِ سَيِّدُنَا عِزُّ الْعَرَبِ سَيِّدُنَا صَاحِبُ

ہمارے آقاصِ الْجَنَّةِ جو عرب کی شان و شوکت ہیں، ہمارے آقاصِ الْجَنَّةِ جو

الْفَرَّجِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ

کشاوری کا سبب ہیں، ان پر اور ان کی آل پر الشفای کی رحمتیں ہوں

اللَّهُمَّ يَا رَبِّ يَجَادِهِ نَبِيِّكَ الْمُضَطَّفِ وَرَسُولِكَ

اے اللہ اے ہمارے پروردگار تجھے تیرے برگزیدہ نبی اور تیرے پرندیدہ رسول

الْمُرْتَضِي وَوَلِيِّكَ الْمُجْتَبِي طَهِّرْ قُلُوبَنَا مِنْ كُلِّ

اور تیرے منتخب کردہ دوست کی جاہ کا واسطہ تو ہمارے دلوں کو پاک کر دے ہر ایسی خصلت سے

وَصَفِّيْبِ اَعْدُنَا عَنْ مَشَاهِدِكَ وَمَحَبَّتِكَ وَامِنَّنَا

جو تیرے مشاہدے سے اور تیری محبت سے دور کر دے

عَلَى السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَالشَّوْقِ إِلَى لِقَائِكَ

اور ہمیں اہل سنت والجماعت کے طریق اور اپنی لقاء کے اشتیاق پر موت نصیب فرما

يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

اے جلال و اکرام واللہ

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ

اور اے اللہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر

وَعَلَى أَهْلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا

اور ان کے تمام آل و اصحاب پر صلاۃ و سلام نازل فرما

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے

صِفَةُ رَوْضَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

هَذِهِ صِفَةُ الرَّوْضَةِ الْمُبَارَكَةِ الَّتِي دُفِنَ فِيهَا

یروضہ مبارک کا اندر وہ نوشہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَاحِبَاتُهُ

اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں رفق

أَبُوبَكْرٌ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا هَكَذَا ذَكَرُهُ عُرْوَةُ

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ آرام فرمائے ہیں،

بْنُ الزَّبِيرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ دُفِنَ رَسُولُ اللَّهِ

حضرت عروہ بن زیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مجی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آرامگاہ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّهْوَةِ وَدُفِنَ أَبُوبَكْرٌ

چیز ترہ میں سی ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پچھلے حصے میں

الصِّدِيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَلْفُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تدفین علی میں آئی

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدُفِنَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک کے پیچھے،

عِنْدَ رِجْلِيْ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

قدموں کی طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تدقیق عمل میں لاٹی گئی،

وَبَقِيَّتِ السَّهْوَةُ الشَّرِقِيَّةُ فَارِغَةً فِيهَا مَوْضِعُ قَبْرٍ

اسی چبوترے کے شرقی حصے پر جہاں ایک قبر کی جگہ خالی ہے

يُقَالُ لَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ إِنَّ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا

اللہ تعالیٰ ہی حقیقت سے واقف ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت میسیح علیہ السلام

الضَّلُوهُ وَالسَّلَامُ يُدْفَنُ فِيهِ وَكَذَلِكَ جَاءَ

کامل فن اسی حصے میں ہوگا اور اس کی تائید اس حدیث مبارک سے بھی ہوتی ہے

فِي الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

جو رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمائی ہے

وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا رَأَيْتُ ثَلَاثَةَ أَقْمَارٍ

اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہجرے میں

سُقُوْطًا فِي حُجَّرَتِيْ فَقَصَصْتُ رُوْيَايَاتِ عَلَى أَبِي بَكْرٍ

تین چانداترے میں میں نے اپنی خواب اپنے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سنایا

الصَّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لِيْ يَا عَائِشَةُ

تو انہوں نے فرمایا اے عائشہ تمہارا ہجرہ

لَيُدْفَنَنَّ فِي بَيْتِكِ ثَلَاثَةُ هُمْ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ

تین ایسی شخصیات کامل فن ہے گا جو روئے زمین میں سب سے بہتر اور برتر ہوں گے،

فَلَمَّا تُوفِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدُفِنَ

پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور میرا بھرہ میرے حبیب کی

فِي بَيْتِي قَالَ لِي أَبُو بَكْرٍ الصَّدِيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

آخری آرامگاہ بناؤ مجھ سے میرے لاجان حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا

هَذَا وَاحِدٌ مِّنْ أَقْمَارِكَ وَهُوَ خَيْرُهُمْ صَلَّى اللَّهُ

کہ تمہارے خواب کے مطابق تین چاندوں میں سے ایک چاند جوان میں فضل ترین ہے تمہارے جھرے میں آگے

عَلَيْهِ وَعَلَى أَلِهِ وَسَلَّمَ كَثِيرًا

اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اولاد اور اصحاب پر خوب رحمتیں اور سلامتی نازل فرمائے

دُعَاءُ النَّبِيَّةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع جو بے حد بہان نہیں رحم کرنے والا ہے

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَسَنَ اللَّهُ وَنَعْمَدُ الْوَكِيلُ

تمام تعریض اللہی کے لئے ہیں جو تمام جانوں کا رب ہے، اللہ میرے لئے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے

وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

نسکی کی طاقت ہے نہ گناہ سے پہنچنے کی قوت مگر اللہ بزرگ و برتر کی توفیق سے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ مِنْ حَوْلِي وَقُوَّتِي إِلَى حَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ

اے اللہ میں اپنے زور و قوت سے برباد ہو کر تیری طاقت اور زور کا سہارا بیتا ہوں،

اللَّهُمَّ إِنِّي نَوَيْتُ بِصَلَوةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اے اللہ میری نیت آنحضرت ﷺ پر درود و سچھیت میں تیرے ارشاد کی قبولی ہے

إِمْتِشَالًا لِأَمْرِكَ وَتَصْدِيقًا لِغَيْبِكَ سَيِّدًا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ

اور تیرے نبی سیدنا محمد ﷺ کے سچے ہونے کا اقرار و اظهار

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَحَبَّةً فِيهِ وَشَوْفًا إِلَيْهِ وَتَعْظِيْمًا لِقَدْرِهِ

اور ان کی محبت اور ان کی طرف اشتیاق اور ان کی تعظیم شان

وَكَوْنَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلًا لِذِلِّكَ فَتَسْقَبُلُهَا مِنِّي

اور ان کا اس کے لئے اہل ہوتا ہے لہذا پسند نفضل و احسان سے اس کو

بِفَضْلِكَ وَإِحْسَانِكَ وَأَزِلْ حِجَابَ الْغَفْلَةِ عَنْ قَلْبِي

میری طرف سے قول فرمادی میرے قاب سے غفلت کے پردے ہٹادے

وَاجْعَلْنِي مِنْ عَبَادِكَ الصَّالِحِينَ

اور مجھے ایسے نیک بندوں میں سے بنادے

اللَّهُمَّ زِدْهَ شَرْفًا عَلَى شَرْفِهِ الَّذِي أَوْلَيْتَهُ وَعَزِّزْهَ عِزَّهُ

اے اللہ اضافہ فرمان کے شرف میں اس شرف پر جو تو نے ان کو بخشنا ہے اور عزت میں اس عزت پر

الَّذِي أَعْظَمْتَهُ وَنُورًا عَلَى نُورِهِ الَّذِي مِنْهُ خَلَقْتَهُ

جو تو نے ان کو عطا فرمائی ہے اور نور پر اس نور میں جس سے تو نے ان کو پیدا فرمایا ہے

وَأَعْلَى مَقَامَهُ فِي مَقَامَاتِ الْمُرْسَلِينَ وَدَرَجَتَهُ فِي

اور ان کا مرتبہ پیغمبروں کے مرتبوں میں اور ان کا درجہ پیغمبروں کے درجات میں بلند فرمایا

دَرَجَاتِ النَّبِيِّينَ وَأَسْنَلَكَ رِضَاكَ وَرِضَاهُ يَا رَبَّ الْعَلَمِينَ

اور اے پروردگار عالم میں تجھے سے تیری خوشیوں اور ان کی خوشیوں کا سوال کرتا ہوں

مَعَ الْعَافِيَةِ الدَّائِمَةِ وَالْمَوْتَ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

دائی تدریتی اور قرآن و طریق سنت والجماعت پر استقامت کے ساتھ

وَالْجَمَاعَةِ وَكَلِمَاتِ الشَّهَادَةِ عَلَى تَحْقِيقِهَا مِنْ غَيْرِ تَبْدِيلٍ

اور حقیقی کلمہ شہادت جس میں کوئی تبدیلی اور تغییر ہو پر موت آنے کے ساتھ

وَتَغْيِيرٍ وَاغْفِرْيٍ مَا ارْتَكَبْتُهُ بِمَنِّكَ وَفَضْلِكَ

اور میرے گناہ جن کا میں مرکب ہوا ہوں انہیں بخش دے اپنے فضل و حسن

وَجُودُكَ وَكَرَمُكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى

اور بجود و کرم سے اے ارحم الرحمین اور اللہ کا صلاوة وسلام ہو

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٌ وَعَلَى أَلِهٖ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا

سید ناصح مولیٰ علیہ السلام پر اور ان کی آل اور ان کے صحابہ پر

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اور ہر تعریف زیبائے اللہ رب العالمین کو

اللَّهُمَّ جَدِّدْ وَجَرِّدْ فِي هَذَا الْوَقْتِ وَفِي هَذِهِ السَّاعَةِ مِنْ

اے اللہ اس وقت اور اس گھنٹی نازل فرما پئی تھی تھی کامل حستیں

صَلُّوٰاتٍكَ التَّامَّاتِ وَتَعْيِيَاتٍكَ الزَّاكِيَاتِ وَرِضُوٰانِكَ

اور پاکیزہ تختہ سلام اور اپنی بڑی و مکمل و داعی خوشنودی،

الْأَكْبَرِ الْأَتَمِ الْأَدُومِ عَلَى أَكْمَلِ عَبْدِكَ فِي هَذَا

صرف اپنے اس بندے پر جو اس عالم میں تمام اولاد آدم سے کامل ترین ہے

الْعَالَمِ مِنْ يَنْبُوْيَ اَدَمَ الَّذِي اَقَمْتَهُ لَكَ ظَلَّاً وَجَعَلْتَهُ

وہ ذات کے اس تو نے اپنا سایہ ناکر قائم کیا

لِحَوَائِيجِ خَلْقِكَ قِبْلَةً وَمَحَلًّا وَاصْطَفَيْتَهُ لِنَفْسِكَ

اور اپنی خلوق کی حاجتوں کا قبلہ اور محل قرار دیا اور اس کو خاص اپنے لئے چن لیا

وَأَقْمَتَهُ بِحُجَّتِكَ وَأَظْهَرَتَهُ بِصُورَتِكَ وَأَخْتَرَتَهُ مُسْتَوِيًّا

اور جنت قائم کرنے کے لئے اسے بھیجا اور اسے اپنی صفات کا مظہر بنایا اور اپنی تخلی کی سطح۔

لِتَجَلِّيَكَ وَمَنْزِلًا لِتَنْفِيَنِ أَوَامِرِكَ وَتَوَاهِيَكَ فِي أَرْضِكَ

اور زمین اور آسمان میں اپنے احکام اور ممانعتوں کے اجراء کا مقام

وَسَمُوتِكَ وَاسِطَةً بَيْنَكَ وَبَيْنَ مُكَوَّنَاتِكَ وَبَلْغُ

اور اپنے اور اپنی تمامی مصنوعات کے درمیان واسطہ بنانے کے لئے اسے فتح فرمایا

سَلَامَ عَبْدِكَ هَذَا إِلَيْهِ فَعَلَيْهِ مِنْكَ الْأَنَّ وَمِنْ

اور اپنے اس ناجائز بندے کا سلام انہیں پہنچا کر اب اس پر تیرے واسطے سے

عَبْدِكَ أَشْرَفُ الصَّلَوَاتِ وَأَفْضُلُ التَّحْمِيَاتِ وَأَزَّكَى

اور تیرے بندے کی طرف سے بہترین درود ہو اور فضل ترین تیرے

الْتَّسْلِيمَاتِ اللَّهُمَّ ذَكِرْهُ إِنْ لَيَذِدُ كُرْنَجِ عِنْدَكَ بِمَا

اور بے حد پا کیزہ سلام ہو اے اللہ ان کو میری یاد دلادیتا کوہ آپ کے پاس میرا ذکر فرمادیں

أَنْتَ أَعْلَمُ أَنَّهُ تَافِعٌ لِي عَاجِلًا وَأَجِلًا عَلَى قَدْرِ مَعْرِفَتِهِ

ان چیزوں کے عطا کرنے کے بارے میں ہے تو خوب جانتا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں

بِكَ وَمَنْزِلَتِهِ لَدَيْكَ لَا عَلَى قَدْرِ عِلْمِي وَمُنْتَهِي فَهُمْ

میرے لئے مفید ہے بقدر تیرے متعلق ان کی معرفت اور تیرے نزدیک ان کی قدر و منزلت کے

إِنَّكَ بِكُلِّ فَضْلٍ جَدِيرٌ وَعَلَى مَا تَشَاءُ قَدِيرٌ

نہ بقدر میرے علم اور میرے مبلغ فہم کے بیشک توہر طرح کے فضل کے لائق ہے اور جو بھی چاہے اس پر قادر ہے

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مَحْبُوبًا فِي قَلْبِ الْإِنْسَانِ الْكَامِلِ وَحَبِيبًا فِي

ابی میری محبت کو کامل انسان (محمد ﷺ) کے دل میں جگہ دے اور ان کی محبت میرے اندر سا جائے

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِهٖ وَصَحْبِهِ

اور اللہ حجتیں نازل فرمائے سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل اور صحابہ پر

عَدَدَ ذَرَاتِ الْوُجُودِ وَعَدَدَ مَعْلُومَاتِ اللَّهِ

وجود کے ذریوں کے بقدر اور اللہ کی معلومات کی تعداد کے موافق،

اللَّهُمَّ وَفِقْهِنِي لِقَرَأَتِهَا عَلَى الدَّوَامِ

ابی مجھے اس کے بھیش پڑھنے کی توفیق بخش

أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَلَمِينَ

یہ میری دعا قبول فرمائے پروردگار عالم

پہلی منزل بروز پیر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلٰانَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهٖ

ہمارے آقاسید ناصح مصلحتی پر اور ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر اللہ کی رحمتیں

وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

اور سلامتی ہو

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا

اے اللہ سید ناصح مصلحتی پر اور ان کی بیویوں پر اور ان کی اولاد پر رحمتیں نازل فرمائی رحمتیں تو نے

صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيمَ وَبَارَكْتَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ

حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل فرمائی تھیں اور سید ناصح مصلحتی پر اور ان کی بیویوں پر اور ان کی اولاد

وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى أٰلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

پر رکشی نازل فرمائی بر رکشیں تو نے اآل ابراہیم علیہ السلام پر نازل فرمائی تھیں بیک تو منشق شاد بزرگی ہے۔

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى

اے اللہ سید ناصح مصلحتی پر اور ان کی آل پر رحمتیں نازل فرمائی رحمتیں تو نے

إِبْرَاهِيمَ وَبَارَكْتَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى أٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا

حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی اور سید ناصح مصلحتی پر اور آل سید ناصح مصلحتی پر

بَارَكْتَ عَلَى أَلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَلَمِينَ إِنَّكَ

بِرَّكَتِينَ نازل فرمائی پر حکمیت آنے آل ابراہیم علیہ السلام پر دنیا جان میں نازل فرمائی تھیں

حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

پیش کوئی سزا و حمد و بزرگی ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى

اے اللہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حکمیت نازل فرمائی تھیں پر حکمیت آنے آل ابراہیم علیہ السلام

إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ

پر نازل فرمائی تھیں اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حکمیت نازل فرمائی تھیں پر حکمیت آنے آل ابراہیم علیہ السلام

عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

پر نازل فرمائی تھیں پیش کوئی مستحق تباش و بزرگی ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَالنَّبِيِّ الْأَمِيِّ وَعَلَى أَلِ مُحَمَّدٍ

اے اللہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی می پر اور آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حکمیت نازل فرمائی تھیں

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ

اے اللہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حکمیت نازل فرمائی تھیں خاص بندے اور تیرے پیغمبر ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ

اے اللہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حکمیت نازل فرمائی تھیں پر حکمیت آنے آل ابراہیم علیہ السلام پر

عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى أَلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

اور آل ابراہیم علیہ السلام پر نازل فرمائی تھیں پیش تجویز کوشاد بزرگی شایان ہے۔

اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِّ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ

اے اللہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتیں نازل فرمائی تھیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام

عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى أَلِّ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

اور آل ابراہیم علیہ السلام پر نازل فرمائی تھیں بے شک تو سزا اور حمد و رحمت ہے۔

اللَّهُمَّ وَتَرَحَّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِّ مُحَمَّدٍ كَمَا

اور اے اللہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر شفقت فرمائی تھیں

تَرَحَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى أَلِّ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ

شفقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پر فرمائی تھیں

حَمِيدٌ مَجِيدٌ

بے شک تو حمد اور رحمت والا ہے۔

اللَّهُمَّ وَتَحَنَّنْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِّ مُحَمَّدٍ كَمَا

اوے اللہ اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لطف و کرم فرمایا تھا

تَحَنَّنْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى أَلِّ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ

جیسا لطف و کرم تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پر فرمایا تھا

حَمِيدٌ مَجِيدٌ

بے شک تو حمد اور شان والا ہے۔

اللَّهُمَّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِّ مُحَمَّدٍ كَمَا

اور اے اللہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامی تھیں

سَلَّمَتْ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى أَلِّ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ

جیسی سلامی تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر بھی تھی

حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

بیکھ تو مدد اور بزرگی کا مستحق ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَلِّ مُحَمَّدٍ وَارْحَمْ

اے اللہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حجتیں نازل فرمائے جائیں پر

مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِّ مُحَمَّدٍ

اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکتیں نازل فرمائے جائیں

كَمَا صَلَّيْتَ وَرَحِمْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى

جیسی حجتیں، رحم اور برکتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام

أَلِّ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعُلَمَائِ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

پر تمام جہاںوں میں نازل فرمائی جیسی بیک تجوہ ہی کشاو بزرگی شایان ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ النَّبِيِّ وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ

اے اللہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تیرے نبی ہیں اور ان کی بیویوں پر جو مومنین کی ماکیں ہیں

الْمُؤْمِنِيْنَ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلَ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى

اور ان کی اولاد پر اور ان کے گھروں اول پر حجتیں نازل فرمائی جیسی حجتیں تو نے ابراہیم علیہ السلام پر

إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

نازل فرمائی تھیں بیک تو ہی مستحق شاد بزرگی ہے

اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِّ مُحَمَّدٍ

اے اللہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی نازل فرمائی

كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ

جیسی برکتیں تو نے آل ابراہیم علیہ السلام پر نازل فرمائی تھیں یعنی مصطفیٰ شاہ بزرگی ہے۔

اللَّهُمَّ دَاحِي الْمَدْحَوَاتِ وَبَارِقِ الْمَسْمُوَاتِ وَجَبَارَ

اے اللہ اے زمین کے فرش کو بچانے والے اور اوچے آسماؤں کے بنانے والے اور تلوپ کو

الْقُلُوبِ عَلَى فِطْرَتِهَا شَقِيقَهَا وَسَعِيدَهَا إِجْعَلْ

ان کی سرشت پر مجبور کرنے والے چاہے وہ بدکار ہوں یا تکوکار ہوں اپنی شرف والی رحمتیں

شَرَائِفَ صَلَواتِكَ وَنَوَاهِي بَرَكَاتِكَ وَرَأْفَةَ تَحْنِنِكَ

اور ترقی آمیز برکتیں اور کمال شفقت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائج تیرے بننے اور

عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ الْفَاتِحِ لِهَا أُغْلِقَ

تیرے پیغمبر ہیں جن نعمتوں کا دروازہ بننے والا ان کے کھونے والے ہیں

وَالْخَاتِمِ لِهَا سَبَقَ وَالْمُعْلَنِ الْحَقَّ بِالْحَقِّ وَالَّدَّامِغُ

اور سالمہ سابق کے ختم کرنے والے ہیں اور حق کا بذریعہ حق اعلان کرنے والے ہیں اور باطل

لِجَيْشَاتِ الْأَبَاطِيلِ كَمَا حُبِّلَ فَاضْطَلَعَ يَأْمُرِكَ

کے لئکروں کے کچھے والے ہیں تیرے عجم کی قیمتیں میں جتنا بھی باران پر ڈالا گیا پس اس کو

بِطَاعَتِكَ مُسْتَوْفِزاً فِي مَرَضَاتِكَ وَاعِيَا لِوَحْيِكَ

قوت کے ساتھ اٹھایا تیری خوشودی میں مستقبل اور تیری وحی کے حافظ

حَافِظًا لِعَهْدِكَ مَاضِيًّا عَلَى نَفَادِ أَمْرِكَ حَتَّى أَوْرَى

اور تیرے عہدوں کے حافظ اور تیرے نفاذ حکم پر عالم بن کریماں تک کہاں تو نور لینے

قَبَّسَا لِقَابِسِ الْأَءُلُوهُ تَصِلُ بِإَهْلِهِ أَسْبَابَهُ بِهِ

والے کے لئے مشغل سلکا دی جس کی قابلیت والے کو افضل الہیاءں کے اسباب تک پہنچاد یتی ہے میں

هُدَيْتِ الْقُلُوبَ بَعْدَ خَوْضَابِ الْفِتْنِ وَالْإِثْمِ

ان کے ذریعہ دلوں کو فتنوں اور گناہوں میں ڈوب جانے کے بعد ہدایت انصیب ہوئی اور

وَأَبْهَجَ مُؤْضِحَاتِ الْأَعْلَامِ وَنَائِرَاتِ الْأَحْكَامِ

اس نے واضح اعلانات اور پھیلتے ہوئے احکام اور انوار اسلام کو خوش مظہر بنادیا، پس

وَمُنِيرَاتِ الْإِسْلَامِ فَهُوَ أَمِينُكَ الْمَأْمُونُ وَخَازِنُ

وہ تیرے قابل اطمینان میں ہیں اور تیرے علم صبور کے خزانی میں اور بروز جزا

عِلْمِكَ الْمَخْرُونِ وَشَهِيدُكَ يَوْمَ الدِّينِ وَبَعِيشُكَ

تیرے گواہ میں اور تیرے بعثت ہاں کو ریسمیت ہوئے میں اور تیرے برحق رسول میں

نِعْمَةً وَرَسُولُكَ بِالْحَقِّ رَحْمَةً اللَّهُمَّ افْسُحْ لَهُ فِي

محجم رحمت میں اے اللہ ان کو اپنی بیشت میں نہیا بیت و سیچ جگہ عطا فرا

عَدْنِكَ وَاجِزِهِ مُضَاعَفَاتِ الْغَيْرِ مِنْ فَضْلِكَ

اور ان کو اپنے فضل سے المضاعف بہترین صلی عطا فرمائیں کے لئے مبارک ہوں

مُهَنَّاثٌ لَهُ غَيْرٌ مُكَلَّرٌ إِنَّمَنْ فَوْزَ ثَوَابِكَ الْمَحْلُولِ

جس میں نام کو بھی کدورت نہ ہو یعنی اپنے سرہب مہر ثواب اور کمر عطا شیر

وَجَزِيلٌ عَطاءِكَ الْمَعْلُولِ اللَّهُمَّ أَعُلِّ عَلَى بِنَاءِ

سے مستفیض فرماۓ اللہ سب لوگوں کی تعمیر سے ان کی تعمیر کو

النَّاسِ بِنَاءُهُ وَأَكْرِمَ مَثْوَاهُ لَدِيكَ وَنُزُلَهُ وَأَتِيمُهُ لَهُ

بلند فرمادا اور ان کی اپنے یاں قیام گاہ اور سہماں کو نشیش بنا اور ان کا

نُورَةُ وَاجْزَةٌ مِنْ ابْتِعَاذِكَ لَهُ مَقْبُولٌ الشَّهَادَةُ

نور کامل فرمادا اور ان کو بروز قیامت یہ صلدے کہ ان کو مقتول

وَمَرْضِيَ الْمَقَالَةُ ذَا مَنْطِقِي عَدْلٌ وَخُطَّةٌ فَصَلٍ

گواہی والا اور پسندیدہ قول والا اور منصفانہ گفتار والا اور فیصلہ کرنے خصلت

وَبُرْهَانٍ عَظِيمٍ

اور زبردست دلیل والا بنا کرائھا

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ طَ يَأْيَهَا الَّذِينَ

(تو فرماتا ہے) بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر صلوٰۃ صحیحہ میں

أَمْنُوا صَلُوٰةً عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً

اے ایمان والوں تم بھی ان پر خوب صلوٰۃ اور سلام کیجیو

لَبِيْكَ اللَّهُمَّ رَبِّيْ وَسَعْدِيْكَ صَلَوَاتُ اللَّهِ الْبَرِّ

(اندازیں تعییل کے لئے) حاضر ہوں اے اللہ کا مامباہ تری طرف سے ہیں لے شمار جھیٹیں ہوں

الرَّحِيمُ وَالْمَلَائِكَةُ الْمُقْرَبُينَ وَالنَّبِيُّينَ

اللہ کی طرف سے بوجس و مہربان ہے اور مترب فرشتوں کی طرف سے اور نبیوں کی طرف سے

وَالصِّدِّيقِينَ وَالشَّهِدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَمَا سَبَّحَ لَكَ

اور صدیقین کی طرف سے اور شہداء و صالحین کی طرف سے اور ہر اس جیسی کی طرف سے

مِنْ شَعْرِ يَا رَبَّ الْعُلَمَاءِ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ بْنِ

جو تیری شمع پڑھتی ہے اے پروردگار عالم سیدنا محمد بن الحسن بن عبد اللہ پر

عَبْدِ اللَّهِ خَاتِمِ النَّبِيِّينَ وَسَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَإِمَامِ

جنوپیوس کے سلسلے کو ختم کرنے والے اور پیغمبروں کے سردار اور پرہیزگاروں کے

الْمُتَّقِينَ وَرَسُولِ رَبِّ الْعُلَمَاءِ الْشَّاهِدِ الْبَشِيرِ

پیشوں اور پروردگار عالم کے رسول ہیں گواہ ہیں بشارت دینے والے ہیں

اللَّهُمَّ إِلَيْكَ يَأْذِنُكَ السَّرَاجُ الْمُنِيرُ وَعَلَيْهِ

تیری اجازت سے تیری طرف بلانے والے ہیں روشن چراغ ہیں اور

السَّلَامُ اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ

ان پر سلام ہو اے الشادی حجتیں اور برکتیں اور عطا تین پیغمبروں کے سردار

وَرَحْمَتِكَ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ

پرہیزگاروں کے پیشوں اور خاتم الانبیاء سیدنا محمد بن الحسن بن علی پر نازل فرا

وَخَاتِمِ النَّبِيِّينَ مُحَمَّدِ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ إِمَامِ

جو تیرے بندے اور پیغمبر ہیں جو کارخیز کے امام اور ہر خونی کے سردار

الْخَيْرِ وَقَائِدِ الْخَيْرِ وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ اللَّهُمَّ ابْعَثْهُ

اور رحمت والے رسول ہیں الی ان کو اس مقام محمود میں پہنچا

مَقَامًا مَّهْمُودًا يَغْبُطُهُ فِيهِ الْأَوْلُونَ وَالْآخِرُونَ

جس کے متعلق سب اگلے اور پچھلے ان پر رمح کریں

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِّ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ

اے اللہ سیدنا محمد ﷺ پر اور آل سیدنا محمد ﷺ پر رحمت نازل فرمائی رحمت تو نے

عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى

حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی بے شک تو سزا اور حمد و شان ہے الہی سیدنا محمد ﷺ پر

مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِّ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ

اور آل سیدنا محمد ﷺ پر برکت نازل فرمائی برکت تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل

إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

فرمائی تھی بے شک تو سزا حمد و شان ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِّهِ وَاصْحَابِهِ وَأَوْلَادِهِ

الہی سیدنا محمد ﷺ پر اور ان کی آل و اصحاب اور ان کی اولاد و ازواج اور

وَأَرْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَاصْهَارِهِ وَانْصَارِهِ

ان کی ذریت و اہل بیت اور ان کے سرالیوں اور انصار اور ان کے پیر و دوں

وَأَشْيَاعِهِ وَمُحِبِّيَّهِ وَأَمْتَهِ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ أَجْمَعِينَ

اور محبت رکھئے والوں اور ان کی امت پر اور ان کے ساتھ ہم پر رحمت نازل فرمा

يَا أَزْحَمَ الرَّاحِمِينَ

اے ارحم الرحمین

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ

البی سیدنا محمد بن علی بن ابی طالب پیر ان پر درود بھیجھے والوں کے پور رحمت نازل فرا

وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ

اور ان پر رحمت نازل فرمان سب کے پور رحمتوں نے ان پر درود بھیجھا

وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا أَمْرَتَنَا بِالصَّلوةِ عَلَيْهِ

اور سیدنا محمد بن علی بن ابی طالب پیر رحمت نازل فرمائی تونے ان پر درود بھیجھا کامیں حکم فرمایا ہے

وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ أَنْ يُصَلِّ عَلَيْهِ

اور سیدنا محمد بن علی بن ابی طالب پیر ایسے رحمت نازل فرمائی تو ان پر رحمت کا بھجھا جانا پسند کرتا ہے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلٍ مُحَمَّدٍ كَمَا أَمْرَتَنَا

البی سیدنا محمد بن علی بن ابی طالب پیر اور آل سیدنا محمد بن علی بن ابی طالب پیر اتنی رحمت نازل فرمائنا کتونے ہمیں حکم فرمایا

أَنْ نُصَلِّ عَلَيْهِ

ہے کہ آپ پر درود بھیجنیں

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلٍ مُحَمَّدٍ كَمَا هُوَ أَهْلُهُ

البی سیدنا محمد بن علی بن ابی طالب پیر اور آل سیدنا محمد بن علی بن ابی طالب پیر جمعیت نازل فرمائی رحمت کے وہ لائق ہیں

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلٍ مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ

البی سیدنا محمد بن علی بن ابی طالب پیر اور آل سیدنا محمد بن علی بن ابی طالب پیر اتنی رحمت نازل فرمائنا جو کو ان کے لئے

وَتَرْضَاهَلَهُ

محبوب اور پسند آئے

اللّٰهُمَّ يٰرَبَّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَآلِ

اے اللہ اے سیدنا محمد ﷺ کے اور آل سیدنا محمد ﷺ کے رب سیدنا محمد ﷺ پر

مُحَمَّدٍ وَاعْطِ مُحَمَّدَ الدَّرْجَةَ وَالْوَسِيلَةَ فِي الْجَنَّةِ

آل سیدنا محمد ﷺ پر حمیت نازل فرمادیں کو درجہ اور جنت میں مقام و سبل عطا فرما

اللّٰهُمَّ يٰرَبَّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ إِاجِزْ مُحَمَّدًا صَلِّ اللّٰهُ

اے اللہ اے سیدنا محمد ﷺ اور آل سیدنا محمد ﷺ کو وہ صلی عطا فرما

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هُوَ أَهْلُهُ

جس کے وہ لائق ہیں

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلٰى

ابی سیدنا محمد ﷺ پر اور آل سیدنا محمد ﷺ پر اور ان کے اہل بیت پر

أَهْلِ بَيْتِهِ

حمیت نازل فرمادیں

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ حَتّى لَا يَقُولُ

ابی سیدنا محمد ﷺ پر اور آل سیدنا محمد ﷺ پر حمیت نازل فرمایہاں تک کر جوت میں سے

وَمِنَ الصَّلوٰةِ شَيْئٌ وَارْحَمْ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ حَتّى

پچھندیں پیچ اور سیدنا محمد ﷺ اور آل سیدنا محمد ﷺ پر حرم فرماتی کر جنمیں سے پچھے

لَا يَقُولُ مِنَ الرَّحْمَةِ شَيْئٌ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ

باتی شرے اور سیدنا محمد ﷺ پر اور آل سیدنا محمد ﷺ پر برکتیں نازل فرمایہاں تک کر

مُحَمَّدٌ حَتَّى لَا يَقُو مِنَ الْبَرَكَةِ شَيْئٌ وَسَلِّمْ عَلَى

برکت میں سے کچھ باتی نہ رہے اور سیدنا محمد ﷺ پر اور آل سیدنا محمد ﷺ پر حستین نہ رہا پر

مُحَمَّدٌ وَعَلَى أَلِّ مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَقُو مِنَ السَّلَامِ شَيْئٌ

سلام بھتی ہیاں تک کہ سلام میں سے کچھ باتی نہ رہے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ فِي الْأَوَّلِيَّنَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اللی سیدنا محمد ﷺ پر حستین نازل فرمائی لوگوں میں اور سیدنا محمد ﷺ پر حستین نازل فرمائی پر

فِي الْآخِرِيَّنَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ فِي النَّيْسِيَّنَ وَصَلِّ عَلَى

پھٹک لوگوں میں اور سیدنا محمد ﷺ پر حستین نازل فرمائی لوگوں میں اور سیدنا محمد ﷺ پر حستین نازل فرمائی پر

مُحَمَّدٍ فِي الْمُرْسَلِيَّنَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ فِي الْمَلَائِكَةِ

حستین نازل فرمائی پیغمبروں میں اور سیدنا محمد ﷺ پر حستین نازل فرمائی پر حستین نازل فرمائی

الْأَعْلَى إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

ملاء عالی میں تاروز جزا

اللَّهُمَّ أَعْطِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ

اللی سیدنا محمد ﷺ کو وسیلہ اور فضیلت اور شرف اور بردا

وَالدَّرَجَةَ الْكَبِيرَةَ

درج عطا فrama

اللَّهُمَّ إِنِّي أَمَثُ بِمُحَمَّدٍ وَلَمَّا رَأَهُ فَلَا تَعْرِمْنِي فِي

اے اللہ میں سیدنا محمد ﷺ پر ایمان لا اور میں نے ان کو بکھانیں لہذا مجھے جنت میں

الْجَنَانِ رُوَيْتَهُ وَأَرْقَى نَعْمَانَ صُحْبَتَهُ وَتَوَفَّيْنِي عَلَى مِلْتَهُ

ان کے دیدار سے محروم رکھنا اور مجھے ان کی محبت نصیب فرمانا اور مجھے ان کے طریقہ پر

وَاسْقِنِي مِنْ حَوْضِهِ مَشْرَبًا رَوِيًّا سَائِغًا هَنِيَّا

وقات دینا اور مجھے ان کے خوش سے اتنا پلا تاکہ مجھے بیراب کر دے اور حس کے بعد مجھے

لَا أَظْهَمُ بَعْدَهُ أَبَدًا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

کبھی بیاس ہی نہ لگے بلکہ توہر چیز بر قادر ہے

اللَّهُمَّ أَبْلِغُ رُوحَ مُحَمَّدٍ مِّيقَاتَ تَحْيَةٍ وَسَلَامًا

الی سیدنا محمد ﷺ کی روح یا کوئی طرف سے تحيۃ اور سلام پہنچا

اللَّهُمَّ وَكَمَا أَمْنَثْتُ بِهِ وَلَمَّا أَرَهُ فَلَا تُحِرِّمْنِي فِي

اور اے اللہ چونکہ میں ان پر ایمان لا یا ہوں حالانکہ ان کو دیکھا بھی نہیں بلکہ مجھے

الْجَنَانِ رُوَيْتُهُ

جنت میں ان کے دیدار سے محروم شرکتا

اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ شَفَاعَةَ مُحَمَّدٍ بِالْكُبْرَى وَأَرْفَعْ

الی سیدنا محمد ﷺ کی شفاعت عامد قبول فرمادا اور ان کا درجہ عظیمی بلند فرا

دَرَجَتَهُ الْعُلِيَّا وَأَتَهُ سُؤْلَةُ فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَى كَمَا

اور دنیا اور آخرت میں ان کی درخواست منظور فرمائی کرنے

أَتَيْتَ سَيِّدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَسَيِّدَنَا مُوسَى

حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست منظور فرمائی

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ

الی سیدنا محمد ﷺ پر برکتیں اور آل سیدنا محمد ﷺ پر برکتیں نازل فرمائیں تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام

عَلٰى اِبْرَاهِيمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ

اور آل ابراہیم علیہ السلام پر برکتیں نازل فرمائیں اور سیدنا محمد ﷺ پر برکتیں اور آل سیدنا محمد ﷺ پر برکتیں

وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيمَ وَعَلٰى اٰلِ

پر برکتیں نازل فرمائیں تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پر برکتیں

إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيلُ مَجِيدُ

نازل فرمائی تھیں بے شک توحید اور بزرگی کا مستحق ہے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَّبِيِّكَ

اے اللہ سیدنا محمد ﷺ پر برکت صلوات وسلام اور برکت تھیج جوتیرے نبی اور نبی

وَرَسُولِكَ وَسَيِّدِنَا اِبْرَاهِيمَ خَلِيلِكَ وَصَفِيفِكَ

رسول ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جوتیرے غلیل اور برگزیدہ ہیں اور

وَسَيِّدِنَا مُوسَى كَلِيمِكَ وَنَجِيِّكَ وَسَيِّدِنَا عِيسَى

حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جوتیرے کلام اور تمراز ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام

رُوحِكَ وَكَلِيمِتِكَ وَعَلٰى جَمِيعِ مَلَائِكَتِكَ وَرُسُلِكَ

پر جوتیری خاص روح اور کلمہ (کن کا شترہ) ہیں اور اپنے تمام فرشتوں

وَأَنْبِيَاِكَ وَخَيْرِتِكَ مِنْ حَلْقِكَ وَأَصْفِيَاِكَ

اور پیغمبروں اور نبیوں پر اور اپنی تخلوق کے اہل خبر اور اپنے چیزوں

وَخَاصَّتِكَ وَأَوْلِيَائِكَ مِنْ أَهْلِ أَرْضِكَ وَسَمَاءَكَ

اور خاص بندوں پر اور اپنی زمین و آسمان کے بادشوں میں اپنے تمام اولیاء پر

وَصَلَى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضِيَ نَفْسِهِ

اور اللہ سیدنا محمد ﷺ پر صلوا و سلام نازل فرمائی تخلوق کے بقدر اور اپنی

وَزَنَةَ عَرْشِهِ وَمَدَادَ كَلِمَاتِهِ وَكَمَا هُوَ أَهْلُهُ وَكُلُّهُ

خوشنودی ذات کے بقدر اور اپنے عرش کے وزن کے بقدر اور اپنے کلمات کی مقدار

ذَكَرُهُ الذَّاكِرُونَ وَغَفَلَ عَنْ ذَكْرِهِ الْغَافِلُونَ

کے بقدر اور جس کے بھی وہ لائق ہیں اور جب بھی ان کو یاد کرنے والے یاد کریں اور ان کی یاد

وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَعِشْرَتِهِ الطَّاهِرِينَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا

سے غفلت کرنے والے ثانیوں ہوں میزان کے گھروالوں اور یاک اولاد پر اور سلام نازل ہو

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَعَلَى

اے اللہ سیدنا محمد ﷺ پر اور ان کی بیویوں اور ان کی ذریت پر

جَمِيعَ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْمَلَائِكَةَ

اور سارے نبیوں پر اور یقینی بہروں پر اور فرشتوں پر اور مقربین پر اور

وَالْمُقَرَّبِينَ وَجَمِيعِ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ عَدَدَ مَا

تمام نیک بندگان خدا برحمت نازل فرمائی بندوں کے بقدر

أَمْطَرِتِ السَّمَاءَ مُنْذُ بَعْيَتَهَا وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ

جو آسمان بر سارچا کا ہے جب سے تو نے آسمان کو بنایا ہے اور سیدنا محمد ﷺ پر

مَا أَنْبَتَ الْأَرْضُ مِنْ دَحْوَتَهَا وَصَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ

رحمت نازل فرمان آنچہوں کے بقدر جن کو زمین اگاہی ہے جب سے بھی تو نے زمین کو بچایا ہے اور

عَدَدُ النُّجُومِ فِي السَّمَاءِ فَإِنَّكَ أَحْصَيْتَهَا وَصَلَّى عَلَى

سیدنا محمد ﷺ پر آسمان کے ستاروں کی تعداد کے موافق رحمت نازل فرمان بے شک تو ان کی شمار

مُحَمَّدٌ عَدَدَ مَا تَنَفَّسَتِ الْأَرْوَاحُ مِنْذُ خَلَقْتَهَا

جانتا ہے اور سیدنا محمد ﷺ پر رحمت نازل فرمان بقدر ان سالوں کی تعداد جو روحوں نے لئے ہیں

وَصَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ وَمَا تَخْلُقُ وَمَا

اس زمانہ سے جب سے تو نے ان کو پیدا کیا اور سیدنا محمد ﷺ پر رحمت نازل فرمان بقدر اس کے ہے تو پیدا

أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ وَأَضْعَافَ ذِلِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ

فرماچکا اور حس کو پیدا فرمائے گا اور حس کو تیرا علم احاطہ کئے ہوئے ہیں اور اس سے کئی گناہ یادہ

عَدَدُ خُلُقِكَ وَرِضَاءَ نَفْسِكَ وَزِنَةَ عَرْشِكَ وَمِدَادَ

اللہی اپنے خلق کے بقدر اور اپنی خوشودی ذات کے بقدر اور اپنے عرش کے ہم وزن اور اپنے کلمات

كَلِمَاتِكَ وَمَبْلَغَ عِلْمِكَ وَأَيَّاتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ

کے برابر اور اپنے علم اور اپنی آیات کے بقدر ان پر رحمت نازل فرمان اے اللہ ان سب

صَلْوَةُ تَفُوقُ وَتَفْضُلُ صَلْوَةُ الْمُصَلِّيَّنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ

پر رحمت نازل فرمان تمام تفویق کے درود بھیجنے والوں کی دعا رحمت پر

الْخَلْقِ أَجَمِيعِينَ كَعَصْلِكَ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِكَ

اسی فویقیت اور افضلیت لے جائے جیسی تھی اپنی تمام خلق پر فضیلت ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ صَلْوَةً دَائِمَةً مُسْتَمِرَةً الدَّوَامِ

اے اللہ ان سب پر وہ رحمت نازل فرم جو دنیٰ بھر کر

عَلَى مَرِّ الْلَّيَالِيِّ وَالْأَيَامِ مُتَّصِلَّةً الدَّوَامِ لَا انْقِضَاءَ لَهَا

راتوں اور دنوں کے دور میں برابر جاری رہے اور اس کا دوام راتوں اور

وَلَا انْصِرَامَ عَلَى مَرِّ الْلَّيَالِيِّ وَالْأَيَامِ عَدَدَ

دنوں کے دور میں مسلسل ہو جس کا نہ خاتمہ ہو اور نہ انقطاع ہو باش اور شتم

كُلٌّ وَإِلٍ وَظَلٌّ

کے ہر قطربے کے بقدر

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ نَبِيِّكَ وَابْرَاهِيمَ خَلِيلِكَ

اے اللہ اپنے نبی سیدنا محمد ﷺ اور اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام پر

وَعَلَى جَمِيعِ أَنْبِيَاِكَ وَأَصْفِيَاِكَ مِنْ أَهْلِ أَرْضِكَ

اور اپنے تمام انبیاء اور اوصیاء پر اور باشدگان زمین و آسمان پر اپنی تجلیوں

وَسَمَاءِكَ عَدَدَ خَلْقِكَ وَرِضَاءَ نَفْسِكَ وَزَنَةَ عَرْشِكَ

کے بقدر اور اپنی خوشودی ذات کے بقدر اور اپنے عرش کے ہم وزن

وَمَدَادَ كَلِمَاتِكَ وَمُنْتَهَى عِلْمِكَ وَزَنَةَ جَمِيعِ

اور اپنے کلمات کے برابر اور اپنے علم کے حسب رسائی اور اپنے تمام مخلوقات کے ہم وزن

مَخْلُوقَاتِكَ صَلْوَةً مُكَرَّةً أَبَدًا عَدَدَ مَا أَحْضَى عِلْمُكَ

بار بار اور ہمیشہ ہمیشہ رحمت نازل فرماں جیزوں کے بقدر جن کو تیر علم حیطہ ہے

وَمِلَّا مَا أَحْضَى عِلْمُكَ وَأَضَعَافَ مَا أَحْضَى عِلْمُكَ

اور ان چیزوں کے بھراؤ کے بقدر جن کو تیر علم محيط ہے اور ان چیزوں

صَلَوةً تَزَيِّدُ وَتَفْوُقُ وَتَفْضُلُ صَلَوةَ الْمُصَلِّيْنَ

کا کئی گناہ جن کو تیر علم محيط ہے اتنی رحمت جو تمام مخلوق میں آن پر درود

عَلَيْهِمْ مِنَ الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ كَفَصِلِكَ عَلَى

بھیجنے والوں کی دعا ہے رحمت پر ایسی برتری و فویت اور برائی لے جائے جیسی

جَمِيعِ خَلْقِكَ

تجھے اپنے تمام مخلوق پر برتری ہے

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ لَذَّمَرِ مِلَّةَ نَبِيِّكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ مجھے اس جماعت میں سے بننا جس نے تیرے نبی سیدنا محمد ﷺ کی شریعت کو

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَظَمَ حُرْمَتَهُ وَاعَزَّ كَلِمَتَهُ

مضبوط کپڑا اور آپ کی شان کا احترام کیا اور آپ کے قول کی عزت کی اور آپ کے

وَحِفِظْ عَهْدَهُ وَذِمَّتَهُ وَنَصَرَ حِزْبَهُ وَدَعْوَتَهُ وَكَثَرَ

عبد و بیان کو خیوڑ رکھا اور آپ کی جماعت کی اعانت کی اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے میں اعانت کی

تَابِعِيهِ وَفِرْقَتَهُ وَوَافِ زُمْرَتَهُ وَلَمْ يُغَالِفْ

اور ان کے تابعین اور ان کے گروہ کو بڑھایا اور ان کی جماعت کی موافقتوں کی اور ان کے طریق

سَيِّدِلَّهٖ وَسُنْنَتَهُ

اور ان کی سنت کی مخالفت نہیں کی

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْإِسْتِمْسَاكَ بِسُنْتِهِ وَأَعُوذُ بِكَ

اے اللہ میں تجوہ سے درخواست کرتا ہوں ان کی سنت کو مشبوط کیوں لینے کی اور موجودہ کے

مِنَ الْأَنْجَارِ فِي عَمَّا جَاءَ بِهِ

آئے میں اس سے روگروانی سے تیری پناہ مانگتا ہوں

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ سَيِّدُنَا

اے اللہ میں تجوہ سے ہر وہ خوبی مانگتا ہوں جو تجوہ سے سیدنا محمد ﷺ نے تیرے

مُحَمَّدٌ نَّبِيُّكَ وَرَسُولُكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

تیرے نبی اور تیرے رسول نے مانگی تھی اور ہر اس برائی سے

وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ

تیرے نبی پناہ چاہتا ہوں جس سے سیدنا محمد ﷺ نے تیرے نبی اور

نَبِيُّكَ وَرَسُولُكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

تیرے رسول ﷺ نے پناہ چاہی

اللَّهُمَّ اعْصِنِي مِنْ شَرِّ الْفِتْنَ وَعَافِنِي مِنْ جَمِيعِ

البی مجھے فتنوں کے شر سے محفوظ رکھو اور ہر قسم کی آزمائش سے امن میں رکھو

الْبَيْحَنِ وَأَصْلِحْ مِنِي مَا ظَهَرَ وَمَا بَطَنَ وَنَقِّ قَلْبِي مِنْ

اور میرا خاکہ اور باطن سنوار دے اور میرا قلب کیندا اور حسد سے

الْحِقْدِ وَالْحَسِدِ وَلَا تَجْعَلْ عَلَيَّ تِبَاعَةً لِأَحَدٍ

صف فرمادے اور مجھ پر کسی شخص کا اقبال نہ ڈال

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْأَخْذَ بِالْحَسَنِ مَا تَعْلَمُ وَالْتَّرْكَ

اے اللہ میری تجویز سے درخواست ہے کہ میں وہ چیزوں کو جو تیرے علم میں میرے لئے بہتر ہے اور وہ چیز

لِسَيِّئِ مَا تَعْلَمُ وَأَسْأَلُكَ التَّكْفُلَ بِالرِّزْقِ وَالْزُّهْدَ

چھوڑوں جو تیرے علم میں میرے لئے بڑی ہے اور میں تجویز سے روزی کی کافالت پر اطمینان اور بقدر کافایت

فِي الْكَفَافِ وَالْمُخْرَجِ بِالْبَيْانِ مِنْ كُلِّ شُبْهَةٍ

معاش پر قواعد اور بروئے دلیل ہر شب سے علیحدگی کا سوال کرتا ہوں

وَالْفَلَجَ بِالصَّوَابِ فِي كُلِّ حُجَّةٍ وَالْعَدْلَ فِي الْغَضَبِ

اور بروئے واقفیت ہر دلیل میں فتح مندی اور خصوص و رضا بر حال میں انصاف

وَالرِّضَا وَالْتَّسْلِيمَ لِمَا يَعْرِمُ بِهِ الْقَضَاءُ

اور تقاضا و تقدیر پر رضا مندی اور توغیل پس کا سوال کرتا ہوں

وَالإِقْتِصادُ فِي الْفَقْرِ وَالْغَنِيِّ وَالْتَّوَاضُعِ فِي الْقَوْلِ

اور افلاس و توکری بر حال میں میانہ روی اور ہر قول و فعل میں فروعی

وَالْفِعْلِ وَالصِّدْقَ فِي الْجِدِّ وَالْهَزْلِ

اور مذاق و واقعیت میں راست گوئی کا سوال کرتا ہوں

اللَّهُمَّ إِنِّي لِي ذُنُوبًا فِيهَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ وَذُنُوبًا فِيهَا

اللی میرے بہت سے گناہ ایسے ہیں جو صرف میرے اور تیرے درمیان ہیں اور بہت سے گناہ ایسے ہیں

بَيْنِي وَبَيْنَ خَلْقِكَ اللَّهُمَّ مَا كَانَ لَكَ مِنْهَا فَاغْفِرُهُ

جو میرے اور تیرے خلق کے درمیان ہیں اے اللہ ان میں سے جو گناہ تیرے ہیں ان کو غمکش دے

وَمَا كَانَ مِنْهَا لِخَلْقِكَ فَتَحْمِلُهُ عَنِّي وَأَعْنِي بِفَضْلِكَ

اور جو گناہ ان میں تیری مغلوق کے ہیں ان کا میری طرف سے مغلول ہو جاؤ اور مجھے اپنے فضل سے

إِنَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ

بے نیاز بنا دے بے شک تیری مغفرت بڑی وسیع ہے

اللَّهُمَّ نَوَّرْ بِالْعِلْمِ قَلْبِي وَاسْتَعِيلُ بِطَاعَتِكَ بَدْنِي

اے اللہ علم سے میرے قلب کو متوفرا دے اور میرے بدن کو اپنی طاعت کے کام میں لگادے

وَخَلِصْ مِنَ الْفِتْنَ سِرِّي وَاشْعُلْ بِالْأَعْتِبَارِ فِكْرِي

اور فتنوں سے میرے باطن کو خاصی بخش اور میری فکر کو بہتر پکرنے میں مشغول فرما

وَقِينِي شَرَّ وَسَاوِسِ الشَّيْطَانِ وَآجِرْنِي مِنْهُ يَا رَحْمَنُ

اور مجھے شیطانی دوسروں سے محفوظ رکھو اور اے رحم جسچے شیطان سے پناہ مل رکھ

حَتَّى لَا يَكُونَ لَهُ عَلَى سُلْطَانٍ

تاکہ کام کا مجھ پر سلطنت ہو سکے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئُلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ

اللی میں تجھ سے ان چیزوں کی بھالائی مانگتا ہوں جن کا تجھے علم ہے اور ان چیزوں کی برائی سے

شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَآسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ مَا تَعْلَمُ

تیری پناہ لیتا ہوں جن کا تجھے علم ہے اور ہر اس (گناہ) کی تجھ سے مغفرت مانگتا ہوں جس کا تجھے علم ہے

إِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا تَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ

اور تمیں علم نہیں اور ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے

اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي مِنْ زَمَانٍ هَذَا وَاحْدَاقِ الْفِتْنَ

اللَّهُمَّ مَنْ يَحْمِلُ حَمْزَةً مَخْوَلَرَكَهُ أَمْ بَرْ حَمْزَهُ (اور مجھے محفوظ رکھ) میرے اس زمانے سے اور فتوں کے گھر لینے سے

وَتَطَوَّلِ أَهْلِ الْجُرْأَةِ عَلَىٰ وَاسْتِضْعَافِهِمْ إِيَّاهُ

اور دیہ لوگوں کی مجھ پر دست درازی سے اور مجھے کمزور مجھ لینے سے

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْكَ فِي عِيَادِ مَنْيَعٍ وَحِرْزِ حَصِينٍ

اللَّهُمَّ مجھے اپنی جانب سے مضبوط پناہ اور حفظ قلعہ عطا فرماء

مِنْ جَمِيعِ خَلْقِكَ حَتَّىٰ تُبَلِّغَنِي أَجَلِي مُعَافِيًّا

اپنی تمام حقوق سے یہاں تک کہ مجھے مقررہ زندگی تک بعافیت پہنچا دے

دوسری منزل بروز منگل

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْأَحْذَنَ إِلَّا حَسِينٍ مَا تَعْلَمُ وَالْتَّرْكَ

اے اللہ میری تجویز سے درخواست ہے کہ میں وہ چیزوں جو تیرے علم میں میرے لئے بہتر ہے اور وہ پیش

لِسَيِّئِ مَا تَعْلَمُ وَأَسْأَلُكَ التَّكَفُّلَ بِالرِّزْقِ وَالرُّهْدَ

چھوڑوں جو تیرے علم میں میرے لئے بڑی ہے اور میں تجویز سے روزی کی کافالت پر اطمینان اور بقدرت کا فایض

فِي الْكَفَافِ وَالْمُخْرَجِ بِالْبَيَانِ مِنْ كُلِّ شُبْهَةٍ

معاش پر قناعت اور بروئے دلیل ہر شب سے علیحدگی کا سوال کرتا ہوں

وَالْفَلَجَ بِالصَّوَابِ فِي كُلِّ حُجَّةٍ وَالْعَدْلَ فِي الْغَضَبِ

اور بروئے واقعیت ہر دلیل میں فتح مندی اور غصہ و رضاہر حال میں انصاف

وَالرِّضا وَالْتَّسْلِيمَ لِمَا يَجْرِي بِهِ الْقَضَاءُ

اور قضاہ و قدر پر رضا مندی اور تفویض کا سوال کرتا ہوں

وَالإِقْتِصَادُ فِي الْفَقْرِ وَالْغُنْيِ وَالْتَّوَاضُعُ فِي الْقُولِ

اور افلاس و توکری ہر حال میں میانہ روی اور ہر قول و فعل میں فروتنی

وَالْفِعْلِ وَالصِّدْقَ فِي الْجِدِّ وَالْهَزْلِ

اور مذاق و واقعیت ہر دلیل میں راست گوئی کا سوال کرتا ہوں

اللَّهُمَّ إِنِّي لِي ذُنُوبًا فِيمَا بَيْنَنِي وَبَيْنَكَ وَذُنُوبًا فِيمَا

اللّٰہ میرے بہت سے گناہ ایسے ہیں جو صرف میرے اور تیرے درمیان ہیں اور بہت سے گناہ ایسے ہیں

بَيْنِي وَبَيْنَ خَلْقِكَ اللَّهُمَّ مَا كَانَ لَكَ مِنْهَا فَاغْفِرْهُ

جو میرے اور تیرے مخلوق کے درمیان ہیں اے اللہ ان میں سے جو گناہ تیرے ہیں ان کو بچش دے

وَمَا كَانَ مِنْهَا لِخَلْقِكَ فَتَحْمِلُهُ عَنِّي وَأَعْنِي بِفَضْلِكَ

اور جو گناہ ان میں تیرے مخلوق کے ہیں ان کا میری طرف سے متحمل ہو جا اور مجھے اپنے فضل سے

إِنَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ

بے نیاز بنا دے یہ بھک تیری مغفرت بڑی وسعت ہے

اللَّهُمَّ نَوْرِ بِالْعِلْمِ قَلْبِي وَاسْتَعِمْ بِطَاعَتِكَ بَدَنِي

اے اللہ علم سے میرے قلب کو منور کروادے اور میرے بدن کو اپنی طاعت کے کام میں لگادے

وَخَلِصْ مِنَ الْفِتَنِ سِرِّي وَاشْغَلْ بِالْأَعْتَابِ رِكْرِبِي

اور فتنوں سے میرے باطن کو خاصی بیکش اور میری فکر کو عبرت پکرنے میں مشغول فرم۔

وَقِنِي شَرَّ وَسَاوِسَ الشَّيْطَانَ وَأَجْرِنِي مِنْهُ يَا رَحْمَنْ

اور مجھے شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھ اور اے رحمن مجھے شیطان سے پناہ میں رکھ

حَتَّى لَا يَكُونَ لَهُ عَلَى سُلْطَانٍ

تاکہ اس کا مجھ پر سلطان ہو سکے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ

اللّٰہ میں تھے سے ان بیجوں کی بھلاکی مانگتا ہوں جن کا تجھے علم ہے اور ان بیجوں کی برائی سے

شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَ أَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ مَا تَعْلَمُ

تیری بناہ لیتا ہوں جن کا تجھے علم ہے اور ہر اس (گناہ) کی تجھے سے مغفرت مانگتا ہوں جس کا تجھے علم ہے

إِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا نَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ

اور تمیں علم نہیں اور تو ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے

اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي مِنْ زَمَانِي هَذَا وَاحْدَادِ الْفِتْنَ

اللّٰہ مجھ پر رحم فرم (اور مجھے محفوظار کو) میرے اس زمانے سے اور فتنوں کے گھر لینے سے

وَتَطَاؤْلُ أَهْلِ الْجُرْأَةِ عَلَىٰ وَاسْتِضْعَافِهِمْ إِيَّاهُ

اور دیہ لوگوں کی مجھ پر دست درازی سے اور مجھے کمزور سمجھ لینے سے

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْكَ فِي عِيَادٍ مَّنِيعٍ وَ حِرْزٍ حَصِينٍ

اللّٰہ مجھے اپنی جانب سے مضبوط پناہ اور حفظ افادہ عطا فرمा

مِنْ جَمِيعِ خَلْقِكَ حَتَّىٰ تُبَلِّغَنِي أَجَلِي مُعَافَىٰ

ابنی تمام مخلوق سے یہاں تک کہ مجھے مقربہ زندگی تک بحافیت پہنچاے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ عَلَىٰ أَلِّ مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ

اللّٰہ سیدنا محمد ﷺ پر اور آل سیدنا محمد ﷺ پر ان سب کے بقدرت حمت نازل فرمائجیوں نے آپ ﷺ پر

وَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ عَلَىٰ أَلِّ مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ

درود پڑھا اور سیدنا محمد ﷺ پر اور آل سیدنا محمد ﷺ پر ان سب کے بقدرت حمت نازل فرمائجیوں نے

وَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ عَلَىٰ أَلِّ مُحَمَّدٍ كَمَا تَنْبَغِي الصَّلَاةُ عَلَيْهِ

آپ ﷺ پر درود نہیں پڑھا اور سیدنا محمد ﷺ پر اور آل سیدنا محمد ﷺ پر حمد و شکر پر حمت نازل فرمـا

وَصَلٌ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى أٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا تَجَبَ الصَّلٰوةُ عَلَيْهِ

حقیقت ان کے شایان شان ہو اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرمائی

وَصَلٌ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى أٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا أَمْرَتَ

حقیقت اور دو بھی بنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ضروری ہو اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرمائی

أَن يُصَلِّي عَلَيْهِ

حقیقت اتوے حکم فرمایا ہے کہ ان پر درود بھیجا جائے

وَصَلٌ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى أٰلِ مُحَمَّدٍ وَالَّذِي نُوَزِّعَ مِنْ

اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اولاً و سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرمائی انوار کا نور تمام انوار کا نور مصلی ہے

نُورُ الْأَنوارِ وَأَشْرَقَ بِشَعَاعِ سِرِّهِ الْأَسْرَارُ

اور حسن کے باطن کی شعاع سے تمام اسرار پچتے ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى أٰلِ مُحَمَّدٍ وَعَلٰى أَهْلِ

اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر اور ان کے تیکوں کا رامل بیت

بَيْتِهِ الْأَبْرَارِ أَجْمَعِينَ

سب پر رحمت نازل فرمائی

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى أٰلِهِ بَخْرِ الْأَنوارِكَ

آلی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر رحمت نازل فرمائی تیرے انوار کے سمندر

وَمَعِينِ أَسْرَارِكَ وَلِسانِ حُجَّتِكَ وَعَرْوَسِ

اور تیرے اسرار کے معدن ہیں اور تیرے جنت کے تمہان

مَهْلَكَتِكَ وَامَّا مِ حَضَرَتِكَ وَخَاتِمِ اَنْبِيَاكَ صَلَوَةً

اور تیری مملکت کے دلماجا اور تیری بارگاہ کے کام اور تیرے نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں

تَدْوُمُ بِدَوَامِكَ وَتَبْقِي بِبَقَائِكَ صَلَوَةً تُرْضِيَكَ

ایسی رحمت جو تیری پیغمبر کے ساتھ بہیش ہے اور تیری بقاء کے ساتھ باقی رہے اور ایسی رحمت

وَتُرْضِيَكَ وَتُرْضِيَ بِهَا عَنَّا يَا أَرَحَمَ الرَّاحِمِينَ

جو راضی کرے تجھے اور راضی کرے ان کا وہ جس کے سبب تو تم سے راضی ہو جائے اے ارحم الرحمین

۱ اللَّهُمَّ رَبَّ الْعِلْلِ وَالْحَرَامِ وَرَبَّ الْمَشْعَرِ

اے اللہ اے حل و حرم کے رب اور اے شحر حرام کے رب

الْحَرَامِ وَرَبَّ الْبَيْتِ الْحَرَامِ وَرَبَّ الرِّكْنِ

اور اے بیت الحرام کے رب اور اے حجر اسود و مقام ابراہیم کے رب

وَالْمَقَامِ أَبْلِغْ لِسَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ مِنَّا السَّلَامُ

سیدنا و مولانا محمد ﷺ کو ہمارا سلام پہنچا دے

۲ اللَّهُمَّ رَبَّ الْعِلْلِ وَالْحَرَامِ وَرَبَّ الْمَشْعَرِ

اے اللہ اے حل و حرم کے رب اور اے شحر حرام کے رب

الْحَرَامِ وَرَبَّ الْبَيْتِ الْحَرَامِ وَرَبَّ الرِّكْنِ

اور اے بیت الحرام کے رب اور اے حجر اسود و مقام ابراہیم کے رب

وَالْمَقَامِ أَبْلِغْ لِسَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ مِنَّا السَّلَامُ

سیدنا و مولانا محمد ﷺ کو ہمارا سلام پہنچا دے

۲ ﴿اللَّهُمَّ رَبَّ الْعِلْمِ وَالْحَرَامِ وَرَبَّ الْمَشْعَرِ﴾

اے اللہ اعلیٰ حرم کے رب اور اے شعراں کے رب

الْحَرَامِ وَرَبَّ الْبَيْتِ الْحَرَامِ وَرَبَّ الرُّكْنِ

اور اے بیت الحرام کے رب اور اے حجر اسود مقام برائیم کے رب

وَالْمَقَامِ أَبْلَغُ لِسَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِنَ السَّلَامَ

سیدنا و مولانا محمد بن پیغمبر ﷺ کو ہمارا سلام پہنچا دے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ سیدنا و مولانا محمد بن پیغمبر ﷺ پر رحمت نازل فرمائ جو کہ

سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ

اگلوں اور رکھپلوں کے سردار ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَجِينِ

اے اللہ سیدنا و مولانا محمد بن پیغمبر ﷺ پر ہر وقت اور ہر لحظہ رحمت نازل فرمائ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ سیدنا و مولانا محمد بن پیغمبر ﷺ پر برتر گردہ (فرشتوں) میں روز جزا تک

فِي الْمَلَأِ الْأَعْلَى إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

رحمت نازل فرمائ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَتَّى تَرَ

اے اللہ سیدنا و مولانا محمد بن پیغمبر ﷺ پر اس وقت تک رحمت نازل فرمائ جب تو

الْأَرْضُ وَمَنْ عَلَيْهَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ

زمیں کا اور ان کا جہاں پر آباد ہیں باہ واطق پیشے لے اور توہین بکھریں وارث ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

اللّٰہ سیدنا محمد ﷺ نبی اپی پر اور سیدنا محمد ﷺ ایام کی آل پر رحمت نازل فرمा

كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيلٌ مَّجِيدٌ

جسی تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائی تھی بے شک توہی مُتحن حمد و برگی ہے

وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

اور سیدنا محمد ﷺ نبی اپی پر برکت نازل فرمائی تھی برکت تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی

إِنَّكَ حَمِيلٌ مَّجِيدٌ

بے شک توہی مُتحن حمد و برگی ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اللّٰہ سیدنا محمد ﷺ پر اولاد سیدنا محمد ﷺ پر ایام کی آل پر رحمت نازل فرمما

مُحَمَّدٌ عَدَدٌ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ وَجَرَى بِهِ قَلْمَكَ

جن کو تیر علم حیطہ ہے اونہ کے متعلق تیر قلم چلا

وَسَبَقْتُ بِهِ مَشِيَّعَتُكَ وَصَلَّتْ عَلَيْهِ مَلَائِكَتُكَ

اور جن کی بابت تیری مشیت سبقت لے گئی اور جتنا ان پر تیرے کے شہنشہ درود پڑھ چکے ہیں

صَلَوةً دَائِمَةً بِدَوَامِكَ بَاقِيَةً بِفَضْلِكَ وَإِحْسَانِكَ

ایسی رحمت جو تیری بیگنی کے ساتھ بیشتر ہے اور تیرے فضل و احسان سے

إِلَى أَبَدِ الْأَبَدِ أَبَدًا لَّا نِهَايَةَ لِأَبْدِيَّتِهِ وَلَا فَنَاءَ

ابدالاً باذتك باقی رہے کہ اس کے دوام کی نہ انتہا ہو

لِدَيْمُومِيَّتِهِ

اور اس کی بیفکی کا خاتمه ہو

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِّي سَيِّدِنَا

اللَّهُسَيدِنَاحمَدِلِلنَّاهِيمُ اور آل سیدِنَاحمَدِلِلنَّاهِيمُ ان چیزوں کے بقدر رحمت نازل فرما

مُحَمَّدٌ عَدَّدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ وَأَخْصَاهُ كِتابُكَ

جن کا تیرے علم نے احاطہ اور تیری کتاب (وح محفوظ) نے شبظ کر رکھا ہے

وَشَهِدَتْ بِهِ مَلَائِكَتُكَ وَارْضَ عَنْ أَصْحَابِهِ

اور ان کی شہادت تیرے فرشتوں نے دی ہے اور ان کے تمام صحابے سے راضی ہو جا

وَارْحَمْ أُمَّةَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

اور ان کی امت پر حمایت ہے جنک تو حمد و بزرگی کا مستحق ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِّي مُحَمَّدٍ وَعَلَى جَمِيعِ

اللَّهُسَيدِنَاحمَدِلِلنَّاهِيمُ پر اور سیدِنَاحمَدِلِلنَّاهِيمُ کی اولاد پر اور سیدِنَاحمَدِلِلنَّاهِيمُ کے

أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ

تمام حمایت پر رحمت نازل فرما

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِّي مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ

اللَّهُسَيدِنَاحمَدِلِلنَّاهِيمُ پر اور آل سیدِنَاحمَدِلِلنَّاهِيمُ پر رحمت نازل فرمائی رحمت تو نے

عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكِ اللَّهُمَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِّي

حضرت ابراہیم پر نازل فرمائی تھی اور اے اللہ سیدنا محمد ﷺ پر اور آل سیدنا محمد ﷺ پر فرمائی تھی

مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى أَلِّي إِبْرَاهِيمَ

برکت نازل فرمائی تھی برکت تو نے حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم پر دنیا پہنچا میں

فِي الْعَلَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

نازل فرمائی تھی یہ بیک تو ہی حمد و بزرگی کا مستحق ہے

أَللَّهُمَّ بِخُشُوعِ الْقُلُوبِ عِنْدَ السُّجُودِ لَكَ يَا سَيِّدِي

اے اللہ تیری بارگاہ میں مسجدہ ریز ہوتے ہوئے دل کی عاجزی کے ساتھ بغیر کسی انکار کے

بِغَيْرِ جُهُودٍ وَبِكَ يَا اللَّهُ يَا جَلِيلُ فَلَاشَيَعَ يُدَانِيَكَ فِي

اور اے بزرگ و برتر اے اللہ تیری ہی مدد کے ساتھ، کوئی چیز تیرے مخصوص و عدوں کی پچھلی کی

غَلِيظُ الْعُهُودِ وَبِكُرْسِيِكَ الْمُكَلَّلِ إِلَيْ النُّورِ إِلَى

برابری نہیں کر سکتی اور تیری آں کری کے واسطے سے جو رانیت میں تیرے عرش عظیم سے جڑی ہوئی ہے

عَرِيشَكَ الْعَظِيمِ الْمَجِيدِ وَبِمَا كَانَ تَحْتَ عَرِيشَكَ

اور اس چیز کے واسطے سے جو تیرے عرش عظیم کے نیچے اس وقت بھی تھی جب تو نے آسمانوں کو بھی

حَقًّا قَبِيلَ أَنْ تَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَصَوْتَ الرُّعُودِ لَكَ إِذْ

پیدائش فرمایا تھا اور تیرے حکم سے پیدا ہونے والی بخشیوں کی آواز کے طفیل کیونکہ اس وقت

كُنْتَ مِثْلَ مَالَمْ تَرَلْ قَطْ إِلَهًا عُرْفَتَ إِلَيْ التَّوْحِيدِ

تیری ہی ذات تھی اور کوئی تیرا مش نہ تھا تیری ذات تو وہ ہے جسے بھی شہ تو حید کے ساتھ ہی پہچانا گیا ہے

فَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُحِبِّينَ الْمَحْبُوبِينَ الْمُقَرَّبِينَ

تو بنا دے مجھے ان لوگوں میں سے جو تجوہ سے محبت کرنے والے، تمیرے محبوب، تمیرے مقرب،

الْعَارِفِينَ الْعَاشِقِينَ لَكَ يَا آلَهُ يَا آلَهُ يَا آلَهُ يَا آلَهُ

تیری معرفت والے اور تجوہ سے عشق کرنے والے ایسے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ

يَا آلَهُ يَا آلَهُ يَا آلَهُ يَا آلَهُ

اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ عَدَدَ مَا أَخَاطَ

اللّٰہ سیدنا و مولانا محمد ﷺ پر ان چیزوں کے بغدر رحمت نازل فرمائجہن کو تمیرے علم حجیط ہے

بِهِ عِلْمِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ

اللّٰہ سیدنا و مولانا محمد ﷺ پر ان چیزوں کے بغدر رحمت نازل فرمائجہن کو

عَدَدَ مَا أَخْصَاهُ كِتَابُكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

تمیری کتاب نے محو کر رکھا ہے اللّٰہ سیدنا و مولانا محمد ﷺ پر

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ عَدَدَ مَا نَفَذَتْ بِهِ قُدْرَتُكَ

ان چیزوں کے بغدر رحمت نازل فرمائجہن کے تعلق تیری قدرت نافذ ہوئی

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ عَدَدَ مَا

اللّٰہ سیدنا و مولانا محمد ﷺ پر ان چیزوں کے بغدر رحمت نازل فرمائجہن کو تمیرے ارادہ نے

خَصَّصْتُهُ إِرَادَتُكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ

محسوس کیا اللّٰہ سیدنا و مولانا محمد ﷺ پر ان چیزوں کے بغدر رحمت نازل فرمائجہن کے

عَدَدَ مَا تَوَجَّهَ إِلَيْهِ أَمْرُكَ وَنَهْيُكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

جن کی طرف تم امر و نہی توجہ ہو اللہ سیدنا و مولا ناصح صلی اللہ علیہ وسلم پر

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٌ عَدَدَ مَا وَسِعَهُ سَمِعْكَ اللَّهُمَّ صَلِّ

ان بیرون کے بقدر رحمت نازل فرمائیں کوئی بحث نہ سایا اللہ سیدنا و مولا ناصح صلی اللہ علیہ وسلم پر

عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٌ عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ بَصَرُكَ

ان بیرون کے بقدر رحمت نازل فرمائیں جن پر تیری بصر نے احاطہ کیا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا ذَكَرَهُ

اللہ سیدنا و مولا ناصح صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کو یاد کرنے والوں کے بقدر

الَّذِي أَكْرُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

رحمت نازل فرمائی سیدنا و مولا ناصح صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی یادے

عَدَدَ مَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

غفلت کرنے والوں کے بقدر رحمت نازل فرمائیں

سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٌ عَدَدَ قَطْرِ الْأَمْطَارِ

اللہ سیدنا و مولا ناصح صلی اللہ علیہ وسلم پر بارشوں کی بیرون کے بقدر رحمت نازل فرمائیں

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ أَوْرَاقِ الْأَشْجَارِ

اللہ سیدنا و مولا ناصح صلی اللہ علیہ وسلم پر درختوں کے پتوں کے بقدر رحمت نازل فرمائیں

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ دَوَابِّ الْقِفَارِ

اللہ سیدنا و مولا ناصح صلی اللہ علیہ وسلم پر جنگلات کے جانوروں کی تعداد کے بقدر رحمت نازل فرمائیں

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ دَوَابِتِ الْبِحَارِ

اللّٰهُ سيدنا و مولانا محمد بن خاتمة پر سمندوں کے تعداد کے بقدر رحمت نازل فرما

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مِيَاهِ الْبِحَارِ

اللّٰهُ سيدنا و مولانا محمد بن خاتمة پر سمندوں کے پانی کے بقدر رحمت نازل فرما

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

اللّٰهُ سيدنا و مولانا محمد بن خاتمة پر ان تمام چیزوں کے بقدر رحمت نازل فرما

مَا أَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيلُ وَأَضَاءَ عَلَيْهِ النَّهَارُ

جن پر رات نے تاریکی اداں اور جن پر دن نے روشنی داں،

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ

اللّٰهُ سيدنا و مولانا محمد بن خاتمة پر ہر گھن و شام رحمت نازل فرما،

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الرِّمَالِ

اللّٰهُ سيدنا و مولانا محمد بن خاتمة پر بربت کی تعداد کے بقدر رحمت نازل فرما،

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ

اللّٰهُ سيدنا و مولانا محمد بن خاتمة پر عورتوں اور مردوں کی تعداد کے برابر رحمت نازل فرما،

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ رِضَاَةَ نَفْسِكَ

اللّٰهُ سيدنا و مولانا محمد بن خاتمة پر اپنی ذات کی رضا مندی کے بقدر رحمت نازل فرما،

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِدَادَ كَلِمَاتِكَ

اللّٰهُ سيدنا و مولانا محمد بن خاتمة پر اپنے کلمات کی تعداد کے بقدر رحمت نازل فرما

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ مِلَّا سَمْوَاتِكَ وَأَرْضَكَ

اللّٰہ سیدنا و مولانا محمد بن عبداللّٰہ پیر آسمانوں اور زمین کے بھراؤ کے بقدر رحمت نازل فرما

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ زِنَةَ عَرْشَكَ

اللّٰہ سیدنا و مولانا محمد بن عبداللّٰہ پیر اپنے عرش کے وزن کے مطابق رحمت نازل فرما

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ عَدَدَ مَخْلُوقَاتِكَ

اللّٰہ سیدنا و مولانا محمد بن عبداللّٰہ پیر اپنی مخلوقات کی لگنی کے برابر رحمت نازل فرما

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ أَفْضَلِ صَلَواتِكَ

اللّٰہ سیدنا و مولانا محمد بن عبداللّٰہ پیر اپنی صلواتیں رحمت نازل فرما

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نَبِيِّ الرَّحْمَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى شَفِيعِ

اللّٰہ رحمت والے نبی پر رحمت نازل فرما، الی امت کی شفاعت کرنے والے نبی پر

الْأَمَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى كَافِشِ الْغُمَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ

رحمت نازل فرما، الی تکشی و بشیر دو کرنے والے نبی پر رحمت نازل فرما

عَلَى مُجْلِي الظُّلْمَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُؤْلِي النَّعْمَةِ

اللّٰہ تاریکی دو کرنے والے نبی پر رحمت نازل فرما، الی صاحب نعمت نبی پر رحمت نازل فرما

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُوقِي الرَّحْمَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

اللّٰہ رحمت دینے والے نبی پر رحمت نازل فرما، الی صاحب حوش کوثر پر

صَاحِبُ الْحَوْضِ الْمَوْرُودِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ

رحمت نازل فرمادہ حوش جس پر ساری امت اترے گی، الی مقام محمود والے نبی پر

الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الْلَّوَاءِ

رحمت نازل فرما، الّی باندھ ہوئے جھنڈے والے نبی پر رحمت نازل فرما

الْمَعْقُودُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الْمَكَانِ الْمَشْهُودُ

الّی دربار عامد والے نبی پر رحمت نازل فرما

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمَوْصُوفِ بِالْكَرَمِ وَالْجُودِ

الّی اس ذات پر رحمت نازل فرمائجود و حنف سے متصف ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ هُوَ فِي السَّمَااءِ مَحْمُودٌ وَفِي الْأَرْضِ

الّی اس ذات پر رحمت نازل فرمائجن کا نام آسمانوں میں محمود

سَيِّدُنَا مُحَمَّدُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الشَّامَةِ

اور زمین میں محمد ہے، الّی مہربوت والے نبی پر رحمت نازل فرما

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الْعَلَامَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

الّی ثانی والے نبی پر رحمت نازل فرما، الّی ان (محمد بن علی بن ابی طالب) پر رحمت نازل فرما

الْمَوْصُوفِ بِالْكَرَامَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمَخْصُوصِ

جو بزرگی سے متصف ہیں، الّی ان (محمد بن علی بن ابی طالب) پر رحمت نازل فرما

بِالزَّعَامَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ كَانَ تُظِلُّهُ الْغَيَامَةُ

جو سرواری کے ساتھ مخصوص ہیں، الّی ان (محمد بن علی بن ابی طالب) پر رحمت نازل فرمائجس پر ابرسایکیا کرتا تھا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ كَانَ يَرِيَ مَنْ خَلْفَهُ كَمَا يَرِي مَنْ أَمَامَهُ

الّی ان (محمد بن علی بن ابی طالب) پر رحمت نازل فرمائجس پیچھے والے کو ایسے دیکھتے تھے جس طرح سامنے والے کو دیکھتے تھے،

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الشَّفِيعِ الْمُشَفَّعِ يَوْمَ الْقِيمَةِ

اللَّهِ شَفَاعَتْ كَرَنْ دَالِيْ اُور بِرْ زَيْمَتْ مَقْبُولْ شَفَاعَتْ بِرْ حَمَتْ نَازِلْ فَرْمَا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الْضَّرَاعَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

اللَّهِ تَغْرِيْعَ دَالِيْ بِرْ حَمَتْ نَازِلْ فَرْمَا، اللَّهِ شَفَاعَتْ دَالِيْ بِرْ

صَاحِبِ الشَّفَاعَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الْوَسِيلَةِ

رَحْمَتْ نَازِلْ فَرْمَا، اللَّهِ مَقَامْ وَسِيلَهْ دَالِيْ بِرْ حَمَتْ نَازِلْ فَرْمَا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الْفَضِيلَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

اللَّهِ انْ (محمد بن علي عليهما السلام) بِرْ حَمَتْ نَازِلْ فَرْمَاجِيْفَلِيْتْ دَالِيْ بِرْ، اللَّهِ بَنْدُورْ جَوَالِيْ (محمد بن علي عليهما السلام) بِرْ

صَاحِبِ الدَّرَجَةِ الرَّفِيقَيْةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ

رَحْمَتْ نَازِلْ فَرْمَا، اللَّهِ عَصَادَالِيْ (محمد بن علي عليهما السلام) بِرْ حَمَتْ نَازِلْ فَرْمَا

الْهِرَاؤَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ النَّعْلَيْنِ

اللَّهِ نَعْلَيْنِ شَرْفِيْنِ دَالِيْ (محمد بن علي عليهما السلام) بِرْ حَمَتْ نَازِلْ فَرْمَا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الْحُجَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

اللَّهِ (حقِيْ) دَلِيلَ رَكْنَهْ دَالِيْ (محمد بن علي عليهما السلام) بِرْ حَمَتْ نَازِلْ فَرْمَا،

صَاحِبِ الْبُرْهَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ

اللَّهِ بَرَهَانَ رَكْنَهْ دَالِيْ بِرْ حَمَتْ نَازِلْ فَرْمَا اللَّهِ غَبَرْ دَالِيْ (محمد بن علي عليهما السلام) بِرْ

السُّلْطَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ التَّاجِ

رَحْمَتْ نَازِلْ فَرْمَا، اللَّهِ تَاجَ دَالِيْ (محمد بن علي عليهما السلام) بِرْ حَمَتْ نَازِلْ فَرْمَا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الْبِعْرَاجِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

اللَّهِ مَعْرَاجِ وَالْمَسْجِدِ (محمد ﷺ) پر رحمت نازل فرما، الْلَّهُ أَكْبَرُ (با تحمیں رکھئے) واللَّهُ

صَاحِبِ الْقَضِيبِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رَأْكِبِ النَّعِيْبِ

(محمد ﷺ) پر رحمت نازل فرما، الْلَّهِ أَكْبَرُ کے سوار (محمد ﷺ) پر رحمت نازل فرما

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رَأْكِبِ الْبُرَاقِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُخْتَرِقِ

الْبُرَاقِ پر سوار ہونے والے نبی پر رحمت نازل فرما، الْلَّهِ سَاتُوْنَ آسَانَ چِرْکَے اور پر جانے والے

السَّبْعُ الطِّبَاقِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الشَّفِيعِ فِي جَمِيعِ

(محمد ﷺ) پر رحمت نازل فرما، الْلَّهِ (ان محمد ﷺ) پر رحمت نازل فرما جنم مخلوق کی

الْأَنَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ سَبَّحَ فِي كَفَّهِ الطَّعَامُ

شفاعت کریں گے، الْلَّهِ (ان محمد ﷺ) پر رحمت نازل فرما جنم کے با تحمیں تو والے شیع پڑھی

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ بَكَى إِلَيْهِ الْجِدْعُ وَحَنَّ لِفَرَاقِهِ

اللَّهِ (محمد ﷺ) پر رحمت نازل فرما جنم کے فرقا میں ستوں روپی اور آزاد کرنے لگا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ تَوَسَّلَ بِهِ طَيْرُ الْفَلَّةِ

اللَّهِ ان پر رحمت نازل فرما جنم کا وسیلہ جگل کے پرندے پکڑا کرتے تھے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ سَبَّحَتْ فِي كَفَّهِ الْحَصَادُ

اللَّهِ (محمد ﷺ) پر رحمت نازل فرما جنم کی ہتھیاری میں نکل کر پیوں لے شیع پڑھی

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ تَشَفَّعَ إِلَيْهِ الطَّابِيِّ بِأَفْصَحِ كَلَامِ

اللَّهِ (محمد ﷺ) پر رحمت نازل فرما جنم سے ہر فی نے واضح گفتگو سے سفارش چاہی

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ كَلَّبَهُ الضَّبْ فِي مَجْلِسِهِ

اللّٰہی (محمد ﷺ) پر رحمت نازل فرمائیں گے گوئے بتیں کہ جب آپ اپنے صحابے کے ساتھ

مَعَ أَصْحَابِهِ الْأَعْلَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْبَشِيرِ

پیش ہوئے تھے اللّٰہی (محمد ﷺ) پر رحمت نازل فرمائی جو خوبی سنانے والے اور راہنے والے ہیں

النَّذِيرِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى السَّرَّاجِ الْمُنْذِيرِ

اللّٰہی (محمد ﷺ) پر رحمت نازل فرمادیوں کے چنانچہ ہیں،

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ شَكَ إِلَيْهِ الْبَعْيرِ

اللّٰہی (محمد ﷺ) پر رحمت نازل فرمائیں گے اونٹ نے (اپنے مالک کی) حکایت کی

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ تَفَجَّرَ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ الْبَاءِ

اللّٰہی (محمد ﷺ) پر رحمت نازل فرمائیں گے اگلیوں کے

النَّمِيرِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الطَّاهِرِ الْمُظَاهِرِ

نچے میں سے صاف پانی بہرا، اللّٰہی پاک صاف (محمد ﷺ) پر رحمت نازل فرماء،

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نُورِ الْأَنوارِ

اللّٰہی نوروں کے نور (محمد ﷺ) پر رحمت نازل فرماء،

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مِنْ اشْقَ لَهُ الْقَمَرُ

اللّٰہی (محمد ﷺ) پر رحمت نازل فرمائیں گے خاطر چاند و مکڑے ہو گی،

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الطَّيِّبِ الْمُطَيِّبِ

اللّٰہی پاک اور تھرے (محمد ﷺ) پر رحمت نازل فرماء

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الرَّسُولِ الْمُقْرَبِ اللَّهُمَّ

أَلِي رَسُولِ مُقْرَبِ (محمد ﷺ) پر رحمت نازل فرما

صَلِّ عَلَى الْفَجِيرِ السَّاطِعِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى النَّجْمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَاجِدِ (يَعْنَى مُحَمَّدَ ﷺ) پر رحمت نازل فرما، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى دَارِسَاتِهِ (يَعْنَى مُحَمَّدَ ﷺ)

الثَّاقِبِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْعُرُوَةِ الْوُثْقَى اللَّهُمَّ صَلِّ

پر رحمت نازل فرما، اللَّهُمَّ ضُبوطِ سَهَارِ (يَعْنَى مُحَمَّدَ ﷺ) پر رحمت نازل فرما، اللَّهُمَّ زَمِينَ کو

عَلَى نَذِيرِ أَهْلِ الْأَرْضِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الشَّفَاعِيِّ يَوْمَ

(عذاب کا) ذرستانے والے (محمد ﷺ) پر رحمت نازل فرما، اللَّهُمَّ پیشی کے دن سفارش کرنے والے

الْعَرْضِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى السَّاقِي لِلنَّاسِ مِنَ الْحَوْضِ

(محمد ﷺ) پر رحمت نازل فرما، اللَّهُمَّ لوگوں کو حوش کوثر سے پلانے والے (محمد ﷺ)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ لِوَاءِ الْحَمْدِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

رحمت نازل فرما، اللَّهُمَّ حکم کا جنتہ اٹھانے والے (محمد ﷺ) پر رحمت نازل فرما، اللَّهُمَّ جدوجہد

الْمُشَهِّرِ عَنْ سَاعِدِ الْجِدِّ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمُسْتَعْمِلِ

کے بازو سے آئین چڑھانے والے (محمد ﷺ) پر رحمت نازل فرما، اللَّهُمَّ (محمد ﷺ)

فِي مَرْضَاتِكَ غَايَةُ الْجُهْدِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ

پر رحمت نازل فرما جو حیری رضا جوئی میں انتہائی کوشش کر گز رے، اللَّهُمَّ آخری نبی پر

الْخَاتِمِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الرَّسُولِ الْخَاتِمِ

رحمت نازل فرما، اللَّهُمَّ آخری پیغمبر پر رحمت نازل فرما

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمُصْطَفَى الْقَائِمِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رَسُولِكَ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلِّمْ (محمد ﷺ) پر رحمت نازل فرمائی اپنے رسول ابو القاسم ﷺ پر

إِلَيْكَ الْقَاسِمِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الْأَيَاتِ اللَّهُمَّ

پر رحمت نازل فرمائی (نبوت پر متعدد نشانیوں والے) (محمد ﷺ) پر رحمت نازل فرمائی

صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الدَّلَالَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلِّمْ (محمد ﷺ) پر رحمت نازل فرمائی کے

الإِشَارَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الْكَرَامَاتِ

متعلق (کتب سابقہ میں بکثرت اشارے ہیں، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الْكَرَامَاتِ (محمد ﷺ) پر رحمت نازل فرمائی

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الْعَلَمَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلِّمْ (محمد ﷺ) پر رحمت نازل فرمائی کی (نبوت کی صدماں) علاشیں ہیں اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

صَاحِبِ الْبَيِّنَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الْمُعْجزَاتِ

رحمت نازل فرمائی کی (رسالت کی صدماں) کلمیں ہیں، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلِّمْ (محمد ﷺ) پر

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الْخَوَارِقِ الْعَادَاتِ

رحمت نازل فرمائی کی (محمد ﷺ) پر رحمت نازل فرمائی

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ سَلَّمَتْ عَلَيْهِ الْأَحْجَارُ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ سَلَّمَتْ عَلَيْهِ الْأَحْجَارُ (محمد ﷺ) پر رحمت نازل فرمائیں پھر وہ نے سلام کیا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ سَجَدَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ الْأَشْجَارُ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ سَجَدَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ الْأَشْجَارُ (محمد ﷺ) پر رحمت نازل فرمائی کے آگے دختوں نے سجدہ کیا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ تَفَتَّقَتْ مِنْ نُورِهِ الْأَزْهَارُ

ابی (محمد بن علی) پر رحمت نازل فرمائیں کے نور سے ٹھوکنے پڑے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ طَابَتْ بِبَرَكَتِهِ الشَّمَاءُ

ابی (محمد بن علی) پر رحمت نازل فرمائیں کی برکت سے چل کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ اخْصَرَتْ مِنْ بَقِيَّةِ وَضُوئِيهِ

ابی (محمد بن علی) پر رحمت نازل فرمائیں کے ضوکے پنج ہوئے پانی سے درخت

الأشجارُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ فَاضَتْ مِنْ نُورِهِ

ہرے ہو گئے ابی (محمد بن علی) پر رحمت نازل فرمائیں کے نور سے

جَمِيعُ الْأَنْوَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ

تمام اوار چلے، ابی (محمد بن علی) پر رحمت نازل فرمائیں پر درود پڑھنے سے گناہ معاف

تُحْكُمُ الْأَوْزَارُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ

کردیئے جاتے ہیں ابی (محمد بن علی) پر رحمت نازل فرمائیں پر درود پڑھنے سے

تُنَالُ مَنَازِلُ الْأَبَرَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ بِالصَّلَاةِ

ابرار کے مرتبے حاصل ہوتے ہیں، ابی (محمد بن علی) پر رحمت نازل فرمائیں پر درود پڑھنے سے

عَلَيْهِ يُرْحَمُ الْكِبَارُ وَالصِّغَارُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ

سب بڑوں اور چھوٹوں پر رحمت کا نزول ہوتا ہے، ابی (محمد بن علی) پر رحمت نازل فرمائیں

بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ نَتَنَعَّمُ فِي هَذِهِ الدَّارِ وَفِي تِلْكَ الدَّارِ

جن پر درود پڑھنے سے ہمیں اس دنیا میں بھی بیش طے گا اور اس آخرت میں بھی

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ تُنَالُ رَحْمَةُ

(اللّٰہ (محمد ﷺ) پر رحمت نازل فرمائیں پڑھنے سے خداۓ غفاری رحمت نصیب ہوتی ہے

الْعَزِيزُ الْغَفَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمُنْصُورِ الْمُؤَيَّدِ

(اللّٰہ (محمد ﷺ) پر رحمت نازل فرمائیں کی نصرت و تائید (تیری طرف) سے کمی ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمُخْتَارِ الْمُمَجَّدِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

اللّٰہ منتخب و بزرگ (محمد ﷺ) پر رحمت نازل فرمائیں اللّٰہ سیدنا و مولانا محمد ﷺ پر

سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ كَانَ إِذَا

رحمت نازل فرمائیں (محمد ﷺ) پر رحمت نازل فرمائیں کی پیشان تھی کہ

مَشِيٌ فِي الْبَرِّ الْأَقْفَرِ تَعَلَّقَتِ الْوُحُوشُ بِأَذْيَالِهِ

جب بیان میں چلتے تھے جو حکی جانور آپ کے دامن سے چنتے تھے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى أَهْلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا

اللّٰہ ان پر اور ان کی اولاد اور اصحاب پر رحمت نازل فرمائیں اسلام نازل فرمائیں

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اور ہر تعریف اللہ رب العالمین کے لئے ہے

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى حِلْمِهِ بَعْدَ عِلْمِهِ وَعَلَى عَفْوِهِ بَعْدَ قُدْرَتِهِ

اللّٰہ کی حمد و شکران کے حلم پر باوجود علم کے، اور اس کی معافی پر باوجود قدرت کے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ إِلَّا إِلَيْكَ وَمَنْ ذُلِّ

اللّٰہ میں تیری بنادگتا ہوں ہر احتیاج سے بھرتی احتیاج کے اور ہر قسم کی ذلت سے

إِلَّا لَكَ وَمِنَ الْخَوْفِ إِلَّا مِنْكَ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَقُولَ

بجز تیری خاطر ذات کے اور ہر قسم کے خوف سے بجز تیری خوف کے اور تیری بننا مانگتا ہوں کہ

زُورًا أَوْ أَغْشَى فُجُورًا أَوْ أَكُونَ بِكَ مَغْرُورًا وَأَعُوذُ بِكَ

جوہت بلوں یا بدکاری کا مرٹکب ہوں یا تیرے کرم پر دھوکا کھاؤں

مِنْ شَمَائِتَةِ الْأَعْدَاءِ وَعُضَالِ الدَّاءِ وَخَيْرَةِ الرَّجَاءِ

اور تیری بننا مانگتا ہوں دشمنوں کے پیشے سے اور لا علاج مرض سے اور امید کی ناکامی سے

وَزَوَالِ النِّعَمَةِ وَفَجَاءَةِ النِّقْمَةِ

او نعمت چھن جانے سے اور چاہنک عذاب سے

۱ آللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ

الی سیدنا محمد ﷺ پر رحمت نازل فرمادور ان پر سلام نازل فرمادور اپنے حسیب کو

وَاجْزِهْ عَنَّا مَا هُوَ أَهْلُهُ حِبِّيْبَكَ

ایسا صلی عطا فرماجوان کے شایان شان ہو

۲ آللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ

الی سیدنا محمد ﷺ پر رحمت نازل فرمادور ان پر سلام نازل فرمادور اپنے حسیب کو

وَاجْزِهْ عَنَّا مَا هُوَ أَهْلُهُ حِبِّيْبَكَ

ایسا صلی عطا فرماجوان کے شایان شان ہو

۳ آللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ

الی سیدنا محمد ﷺ پر رحمت نازل فرمادور ان پر سلام نازل فرمادور اپنے حسیب کو

وَاجْزِهْ عَنَّا مَا هُوَ أَهْلُهُ حَبِيبِكَ

ایسا صل عطا فرما جوان کے شایان شان ہو

❶ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَسَلِّمُ عَلَيْهِ

اللّٰہ سیدنا ابراہیم پر رحمت نازل فرمادوران پر سلام نازل فرمادورا پئے خلیل کو

وَاجْزِهْ عَنَّا مَا هُوَ أَهْلُهُ خَلِيلِكَ

ایسا صل عطا فرما جوان کے شایان شان ہو

❷ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَسَلِّمُ عَلَيْهِ

اللّٰہ سیدنا ابراہیم پر رحمت نازل فرمادوران پر سلام نازل فرمادورا پئے خلیل کو

وَاجْزِهْ عَنَّا مَا هُوَ أَهْلُهُ خَلِيلَكَ

ایسا صل عطا فرما جوان کے شایان شان ہو

❸ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَسَلِّمُ عَلَيْهِ

اللّٰہ سیدنا ابراہیم پر رحمت نازل فرمادوران پر سلام نازل فرمادورا پئے خلیل کو

وَاجْزِهْ عَنَّا مَا هُوَ أَهْلُهُ خَلِيلِكَ

ایسا صل عطا فرما جوان کے شایان شان ہو

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا

اللّٰہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اآل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرمادورا

مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَرَحِمْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ

جیسی صلاوة و رحمت و برکات تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر

فِي الْعَلَمِيْنِ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ عَدَدَ خَلْقِكَ وَرَضَاَءَ

دی جہاں میں نازل فرمائی تھی بے شک تو ہی مسْتَحْقِی مُحَمَّد بزرگی ہے، ابھی مخلوق کے بقدر اور اپنی ذات کی

نَفْسِكَ وَزِنَةَ عَرْشِكَ وَمَدَادَ كَلِمَاتِكَ

خوشنودی کے بقدر اور اپنے عرش کے وزن کے بقدر اور اپنے کلمات کی تعداد کے بقدر

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ

اللّٰہ سیدنا محمد ﷺ پر ان کے بقدر رحمت نازل فرماجہنوں نے ان پر درود پڑھا

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ

اللّٰہ سیدنا محمد ﷺ پر ان کے بقدر رحمت نازل فرماجہنوں نے ان پر درود پڑھا

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا صَلَّى عَلَيْهِ

اللّٰہ سیدنا محمد ﷺ پر ان درودوں کے بقدر رحمت نازل فرماجہنوں پر پڑھے گئے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَضْعَافَ مَا صُلِّيَ عَلَيْهِ

اللّٰہ سیدنا محمد ﷺ پر ان کے کمی گناہات نازل فرماجہنی درود آپ پر سمجھے گئے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا هُوَ آهُلُهُ

اللّٰہ سیدنا محمد ﷺ پر اسی رحمت نازل فرماجس کے وہ مسْتَحْقِی ہیں

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى لَهُ

اللّٰہ سیدنا محمد ﷺ پر اسی رحمت نازل فرمائی گئی تجوہ کو محظوظ و پسندیدہ ہو

تیسرا منزل بروز بدھ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رُوحِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْأَرْوَاحِ

اللہ تعالیٰ نام روحوں میں سیدنا محمد ﷺ کی روح پر

وَعَلَى جَسَدِهِ فِي الْأَجْسَادِ وَعَلَى قَبْرِهِ فِي الْقُبُورِ وَعَلَى

اور تمام جسموں میں ان کے جسم پر اور تمام قبروں میں ان کی قبر پر

اَللَّهُمَّ وَصَحِّبِهِ وَسَلِّمُ

اور ان کے آل و اصحاب پر رحمت اور سلام نازل فرمائیں

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرْتُهُ الَّذِي كَرُونَ

اللہ تعالیٰ نام روحوں پر رحمت نازل فرمائیں جب بھی یاد کرنے والے سیدنا محمد ﷺ کو یاد کریں

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذَكْرِهِ

اللہ تعالیٰ نام روحوں پر رحمت نازل فرمائیں جب بھی ان کی یاد سے غفلت کرنے والے

الْغَافِلُونَ

ان کی یاد سے ناقل ہوں

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسِّلِمُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَالَّتِي اُلَّا يَ

اللہ تعالیٰ نام روحوں پر صلاۃ و سلام نازل فرمائیں جب بھی ان کی بیسوں پر

وَأَرْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ

جموہ منین کی ماں بھیں اور ان کی اولاد اور اہل بیت پر ایسا صلح و سلام

صَلُوةً وَسَلَامًا لَا يُحْصِي عَدُدُهُمَا وَلَا يَنْقُطُ مَدُدُهُمَا

جس کی تعداد شمارہ کی جائے اور جس کی تاریخ تو ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَّ مَا أَحَاطَ بِهِ

اللی سیدنا محمد ﷺ پر ان چیزوں کے بعد رحمت نازل فرما جن پر تیرے علم

عِلْمُكَ وَأَخْصَاصُكَ كِتَابُكَ صَلُوةً تَكُونُ لَكَ رِضَىٰ

نے احاطہ اور تیری کتاب نے محفوظ کر کھا ہے اسی رحمت جو تیرے لئے

وَلِحِقَّهُ أَدَاءً وَأَعْطِهِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالدَّرَجَةَ

خوبشودی اور اس کا حق ادا ہونے کا سبب ہے اور ان کو وسیلہ اور فضیلت کا

الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ اللَّهُمَّ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي

اور پلند درجہ عطا فرما اور اے اللہ ان کو اس مقامِ محمود میں سمجھا جس کا

وَعْدَتَهُ وَاجْزِهَ عَنَّا مَا هُوَ أَهْلُهُ وَعَلَى جَمِيعِ إِخْوَانِهِ

تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے اور ان کو ہماری طرف سے وہ صلی عطا فرما

مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشَّهِدَاءِ وَالصَّالِحِينَ

جب کے وہ مستحق ہیں، میزان کے سارے برادران انبیاء و صدیقین

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَنْزِلْهُ الْمُنْزَلَ

اور شہداء و صالحین پر رحمت نازل فرمائیں سیدنا محمد ﷺ پر رحمت نازل فرمایا

الْمُقَرَّبَ يَوْمَ الْقِيمَةِ

اور ان کو بروز قیامت مقام مقرب میں اتنا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ إِسْلَامِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ پر حمد نازل فرمادا

اللَّهُمَّ تَوَجِّهُ بِتَاجِ الْعِزَّةِ وَالرِّضَى وَالْكَرَامَةِ

اللَّهُمَّ ان کو عزت و خوشودی اور احترام کا تاج پہنا

اللَّهُمَّ أَعْطِ لِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَفْضَلَ مَا سَأَلَكَ لِنَفْسِهِ

اللَّهُمَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ کو بہتر سے بہتر تجھے سے جو مانگا ہو اونئیں بہتر سے بہتر عطا

وَأَعْطِ لِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَفْضَلَ مَا سَأَلَكَ لَهُ أَحَدٌ مِّنْ

فرما اور سیدنا محمد سلی اللہ علیہ وسلم کو بہتر سے بہتر عطا فرمائیں جیسی ملوق میں سے ان

خَلُقِكَ وَأَعْطِ لِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَفْضَلَ مَا آنْتَ مَسْؤُلٌ

کے لئے تجھے کسی نے ماٹا ہوا اور سیدنا محمد سلی اللہ علیہ وسلم کو رودھہ جیسے بہتر سے بہتر

لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيمَةِ

عطافرمائیں جسے مانگی جائے روز قیامت تک

① اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَسَيِّدِنَا أَدَمَ

اللَّهُمَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ پر اور حضرت آدم علیہ السلام پر اور حضرت نوح علیہ السلام

وَسَيِّدِنَا نُوحَ وَسَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَسَيِّدِنَا مُوسَى

پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت موسی علیہ السلام پر

وَسَيِّدِنَا عِيسَى وَمَا بَيْتَهُمْ مِنَ النَّبِيِّينَ

اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور جوان کے درمیان میں نبیوں اور رسولوں میں

وَالْمُرْسَلِينَ صَلَواتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ

سب پر رحمت نازل فرماء، ان سب پر اللہ کی رحمتیں اور سلام ہو

۱۰۱ ﴿أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَسَيِّدِنَا أَدَمَ

اللّٰہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت آدم علیہ السلام پر اور حضرت نوح علیہ السلام

وَسَيِّدِنَا نُوحَ وَسَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَسَيِّدِنَا مُوسَى

پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر

وَسَيِّدِنَا عِيسَى وَمَا بَيْتَهُمْ مِنَ النَّبِيِّينَ

اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور جوان کے درمیان میں نبیوں اور رسولوں میں

وَالْمُرْسَلِينَ صَلَواتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ

سب پر رحمت نازل فرماء، ان سب پر اللہ کی رحمتیں اور سلام ہو

۱۰۲ ﴿أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَسَيِّدِنَا أَدَمَ

اللّٰہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت آدم علیہ السلام پر اور حضرت نوح علیہ السلام

وَسَيِّدِنَا نُوحَ وَسَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَسَيِّدِنَا مُوسَى

پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر

وَسَيِّدِنَا عِيسَى وَمَا بَيْتَهُمْ مِنَ النَّبِيِّينَ

اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور جوان کے درمیان میں نبیوں اور رسولوں میں

وَالْمُرْسَلِينَ صَلَواتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ

سب پر رحمت نازل فرماء، ان سب پر اللہ کی رحمت اور سلام ہو

❶ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى أَبِينَا سَيِّدِنَا أَدَمَ وَأَمِنَا

اللہی ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام اور ہماری ماں حضرت وآلیہ السلام پر اپنے

سَيِّدِنَا حَوَاءَ صَلْوَةَ مَلَائِكَتِكَ وَأَعْطِهِمَا مِنْ

فرشتوں کی سی رحمت نازل فرماء اور دونوں کو وہ خوشودی عطا فرماسک تو ان کو

الرِّضْوَانِ حَتَّى تُرْضِيَهُمَا وَاجْزِهِمَا اللَّهُمَّ أَفْضَلَ

راضی کر دے اور اے اللہ ان کو بہتر سے بہتر صلے عطا فرمائ جو تو نے کسی باپ اور

مَا جَازَ يُتَبَّهُ أَبَا وَأَمَّا عَنْ وَلَدَيْهِمَا

ماں کو ان کی اولاد کی طرف سے دیا ہو

❷ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى أَبِينَا سَيِّدِنَا أَدَمَ وَأَمِنَا

اللہی ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام اور ہماری ماں حضرت وآلیہ السلام پر اپنے

سَيِّدِنَا حَوَاءَ صَلْوَةَ مَلَائِكَتِكَ وَأَعْطِهِمَا مِنْ

فرشتوں کی سی رحمت نازل فرماء اور دونوں کو وہ خوشودی عطا فرماسک تو ان کو

الرِّضْوَانِ حَتَّى تُرْضِيَهُمَا وَاجْزِهِمَا اللَّهُمَّ أَفْضَلَ

راضی کر دے اور اے اللہ ان کو بہتر سے بہتر صلے عطا فرمائ جو تو نے کسی باپ اور

مَا جَازَ يُتَبَّهُ أَبَا وَأَمَّا عَنْ وَلَدَيْهِمَا

ماں کو ان کی اولاد کی طرف سے دیا ہو

۲ ﷺ أَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى أَبِينَا سَيِّدِنَا أَدَمَ وَأَمِّنَا

اللّٰہی ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام اور ہماری ماں حضرت حوا علیہ السلام پر اپنے

سَيِّدِنَا حَوَاءَ صَلوةً مَلائِكَتِكَ وَأَعْطِهِمَا مِنْ

فرشتوں کی سی رحمت نازل فرماؤ اور دواؤں کو وہ خوشودی عطا فرمائ کرو ان کو

الرِّضْوَانِ حَتّٰ تُرْضِيَهُمَا وَاجْزِهِمَا اللّٰهُمَّ أَفْضِلَ

رضی کر دے اور اے اللدان کو بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمائ جو تو نے کسی باپ اور

مَا جَازَ يُثْبِهُ أَبًا وَأُمّا عَنْ وَلَدَيْهِمَا

ماں کو ان کی اولاد کی طرف سے دیا ہو

۱ ﷺ أَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا جَبَرِيلَ وَسَيِّدِنَا

اللّٰہی سیدنا جبریل علیہ السلام پر اور سیدنا میکائیل علیہ السلام پر اور

مِيكَائِيلَ وَسَيِّدِنَا إِسْرَافِيلَ وَسَيِّدِنَا عِزْرَائِيلَ

سیدنا اسرافیل علیہ السلام پر اور سیدنا عزرائیل علیہ السلام پر اور

وَحَمْلَةُ الْعَرْشِ وَعَلٰى الْمَلَائِكَةِ وَالْمُقْرَبِينَ وَعَلٰى

حامیین عرش پر اور دیگر فرشتوں پر اور مقربین پر

جَمِيعُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ صَلواتُ اللّٰهِ وَسَلَامُهُ

اور تمام انبیاء و مرسلین پر رحمت نازل فرماء،

عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ

ان سب پر اللہ کی رحمت اور اس کا سلام ہو

۱ ﴿ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا جِبْرِيلَ وَسَيِّدِنَا

الَّذِي يَعْلَمُ بِأَنَّا جَرِيلٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ پر اور سیدنا میکائیل علیہ السلام پر اور

مِيكائيل وَسَيِّدِنَا إِسْرَافِيلَ وَسَيِّدِنَا عِزْرَائِيلَ

سیدنا اسرافیل علیہ السلام پر اور سیدنا عزرا کل علیہ السلام پر اور

وَحَمْلَةُ الْعَرْشِ وَعَلَى الْمَلَائِكَةِ وَالْمُقَرَّبِينَ وَعَلَى

حامیین عرش پر اور میرقریبتوں پر اور مقربین پر

جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ صَلَواتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ

اور تمام انبیاء و مرسلین پر رحمت نازل فرماء،

عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ

ان سب پر اللہ کی رحمتی اور اس کا سلام ہو

۲ ﴿ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا جِبْرِيلَ وَسَيِّدِنَا

الَّذِي يَعْلَمُ بِأَنَّا جَرِيلٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ پر اور

مِيكائيل وَسَيِّدِنَا إِسْرَافِيلَ وَسَيِّدِنَا عِزْرَائِيلَ

سیدنا اسرافیل علیہ السلام پر اور سیدنا عزرا کل علیہ السلام پر اور

وَحَمْلَةُ الْعَرْشِ وَعَلَى الْمَلَائِكَةِ وَالْمُقَرَّبِينَ وَعَلَى

حامیین عرش پر اور میرقریبتوں پر اور مقربین پر

جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ صَلَواتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ

اور تمام انبیاء و مرسلین پر رحمت نازل فرماء،

عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ

ان سب پر اللہ کی رحمتیں اور ان کا سلام ہو

أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا عَلِمْتَ وَمِلْأَ

اے اللہ سیدنا محمد ﷺ پر ان چیزوں کے بغیر جو تجھے معلوم ہیں اور ان چیزوں کے بغرا تو کے بغیر جو تجھے

مَا عَلِمْتَ وَزِنَةً مَا عَلِمْتَ وَمِدَادَ كَلْمَاتِكَ

معلوم ہیں اور ان چیزوں کے وزن کے بغیر جو تجھے معلوم ہیں اور اپنے کلمات کے بغیر رحمت نازل فرمایا

أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً مَوْصُولَةً

اے اللہ سیدنا محمد ﷺ پر ایسی رحمت نازل فرمایا جو اضافہ کے ساتھ

بِالْتَّزِيْنِ أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً

لی جائیں ہو اے اللہ سیدنا محمد ﷺ پر ایسی رحمت نازل فرمایا

لَا تَنْقِطْعُ أَبَدًا لَا بَدِيلٌ وَلَا تَبِيْدُ

جب کا ابد الابد تک مستمراً ہے اور وہ رحمت ختم ہو

أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَتَكَ الَّتِي صَلَيْتَ

اے اللہ سیدنا محمد ﷺ پر اپنی وہ رحمت نازل فرمایا جو تو نے ان پر نازل فرمائی ہے

عَلَيْهِ وَسَلِّمُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَلَامُكَ الَّذِي

اور سیدنا محمد ﷺ پر اپنا وہ سلام کیجھ جتو نے ان پر کیجا ہے

سَلَمَتَ عَلَيْهِ وَاجْزِهَ عَنَّا مَا هُوَ أَهْلُهُ

اور ان کو ہماری طرف سے وہ صلے عطا فرمائیں کے وہ مستحق ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلُوةً تُرْضِيَكَ

اے اللہ سیدنا محمد ﷺ پر اسی رحمت نازل فرماجو تجھے راضی کر دے اور اخحضرت ﷺ کو

وَتُرْضِيَهُ وَتُرْضِيَ بِهَا عَنَّا وَاجْزِهَ عَنَّا مَا هُوَ أَهْلُهُ

راضی کر دے اور جس سے توہم سے راضی ہو جائے اور ان کو ہماری طرف سے وہ صلی عطا فرماء

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَخْرَ آنُوَارِكَ وَمَعْدِلِنَ

جس کے وہ مُتَّقِیٰ ہیں اے اللہ سیدنا محمد ﷺ پر رحمت نازل فرماجو تیرے انوار کا سمندر اور

أَنْسَرَ اِرَكَ وَلِسَانِ حُجَّتِكَ وَعَرْوَسِ مَمْلَكَتِكَ وَإِمَامَ

تیرے اسرار کا خزینہ اور تیری جھٹ کی زبان اور تیری مملکت کے دو لہما اور تیری بارگاہ کے امام

حَضْرَتِكَ وَطَرَازِ مُلْكِكَ وَخَرَائِنِ رَحْمَتِكَ وَطَرِيقِ

اور تیرے ملک کی زینت اور تیری رحمت کے خزانے اور تیری شریعت کی وہ شاہراہ ہیں

شَرِيعَتِكَ الْمُتَلَبِّذِ بِتَوْحِيدِكَ إِنْسَانِ عَيْنِ الْوُجُودِ

جو تیری توحیدی لذت سے بھری ہوئی ہے، وجود کی آنکھ کی پتی اور ہر موجود کے سبب عظمی ہیں

وَالسَّبَبُ فِي كُلِّ مَوْجُودٍ عَيْنِ أَعْيَانِ خَلْقِكَ

تیری ملاوق کی اصل حقیقت ہیں سب سے پہلے تیرے نور کی شیاء سے پچندا ہے ایں

الْمُتَقَدِّمُ مِنْ تُورِ ضِيَاءِكَ صَلُوةً تَدُومُ بِدَوَامِكَ

ایسی رحمت نازل فرماجو تیری پیغماں کے ساتھ ہمیشہ رہے اور تیری بھاکے ساتھ باقی رہے

وَتَبَقِّي بِبَقَائِكَ لَا مُنْتَهَى لَهَا دُونَ عِلْيَكَ صَلُوةً

اور اسی رحمت نازل فرماجس کی تیرے علم کے مطابق انتہاء ہو اسی رحمت نازل فرماجو تجھے

تُرْضِيَكَ وَتُرْضِيَهُ وَتُرْضِيَبِهَا عَنَّا يَارَبَ الْعَلَمِينَ

اور ان کو راضی کر دے اور جس سے توہم سے خوش ہو جائے اے پروردگار عالم

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِي عِلْمِ اللَّهِ

اے اللہ سیدنا محمد ﷺ پر ان تمام چیزوں کے بقدر رحمت نازل فرمائیں جیسا میں میں

صَلُوةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللَّهِ

اسی رحمت جو حکومت الیہ کے دوام کے ساتھ ہمیشہ ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى

اے اللہ سیدنا محمد ﷺ پر رحمت نازل فرمائی تونے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر رحمت

سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِّ

نازل فرمائی اور سیدنا محمد ﷺ پر اور آل سیدنا محمد ﷺ پر برکت نازل فرمائی تونے

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى أَلِ إِبْرَاهِيمَ فِي

سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر دنیا جان میں برکت نازل فرمائی

الْعَلَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ عَدَدَ خَلْقَكَ وَرِضاً

میکھ تو حمد و بزرگی والا ہے بقدر اپنی خلوق کے اور اپنی ذات کی خواہش کے مطابق

نَفْسِكَ وَزَنَةَ عَرْشِكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ وَعَدَدَ مَا

اور اپنے عرش کے وزن اور اپنے کلمات کے بقدر اور جتنی تعداد میں تیری خلوق

ذَكَرَكَ بِهِ خَلْقَكَ فِيهَا مَاضِي وَعَدَدَ مَا هُمْ ذَا كَرُونَكَ

نے گذشتہ زمانہ میں تیرا ذکر کیا اور جتنی تعداد میں وہ تیرا ذکر کریں گے تیز زمانہ کے

إِنَّهُ فِيمَا بَقِيَ فِي كُلِّ سَنَةٍ وَشَهْرٍ وَجُمْعَةٍ وَيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ

ہر سال و ہر یہود و ہر چند و ہر دن و ہر ساعت اور ہر سو گھنٹہ اور ہر سانس

وَسَاعَةٌ مِنَ السَّاعَاتِ وَشَمِّ وَنَفَسٍ وَظَرْفَةٍ وَلِمَحَةٍ

اور ہر پلک جھکنے اور ہر لمحہ ابتداء سے انتہاء تک اور

مِنَ الْأَكْبَرِ إِلَى الْأَكْبَرِ وَأَبَادَ الدُّنْيَا وَأَبَادَ الْآخِرَةِ وَأَكْثَرَ

انتہاء زمانہ کے دن اور زمانہ کے آخرت تک بلکہ اس سے بھی

مِنْ ذِلِّكَ لَا يَنْقَطِعُ أَوْلَهُ وَلَا يَنْقُدُ أُخْرَهُ

زیادہ کہنا اس کی ابتداء منقطع ہوا اور نہ اس کی انتہاء ختم ہو

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلَى قَدْرِ حُبِّكَ فِيهِ

اے اللہ سیدنا محمد ﷺ پر اتنی رحمت نازل فرمائی تھی ان سے محبت ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلَى قَدْرِ عِنَادِيَتِكَ بِهِ

ابی سیدنا محمد ﷺ پر اتنی رحمت نازل فرمائی تھی ان پر عنايت ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَقَّ قَدْرِهِ وَمِقْدَارِهِ

ابی سیدنا محمد ﷺ پر ان کی قدر و منزلت کے بقدر رحمت نازل فرمایا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلْوَةً تُنَجِّيَّا بِهَا مِنْ

اے اللہ سیدنا محمد ﷺ پر اسی رحمت نازل فرمائی کے ذریعہ میں تمام

جَمِيعُ الْأَهْوَالِ وَالْأَفْعَالِ وَتَقْضِيَ لَنَا بِهَا جَمِيعَ

خطرات و آفات سے نجات بخش دے اور جس کے ذریعے تو ہماری تمام حاجتوں

الْحَاجَاتِ وَتُظَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ السَّيِّاْتِ وَتَرْفَعُنَا

کو پورا فرمادے اور حس کے ذریعہ توہین تمام رائجوں سے پاک کر دے

إِنَّكَ بِهَا أَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا أَقْصَى

اور حس کے ذریعہ توہینے درجات بلند فرمائے اور حس کے ذریعہ توہین

الْغَایَاتِ مِنْ جَمِيعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ

زندگی میں اور مرنے کے بعد بھی انتباہ درج کی تمام خوبیوں تک پہنچا دے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةَ الرِّضَى وَأْرَضْ

البی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشودی کی رحمت نازل فرماؤ ران کے صحابے

عَنْ أَصْحَابِهِ رِضَاءَ الرِّضَى

کمال رشامندی کے ساتھ راضی ہو جا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِالسَّابِقِ لِلْخُلُقِ تُؤْرُهُ

البی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرماؤ کافر ساری مخلوق سے پہلے ہے

وَرَحْمَةً لِلْعَلَمِيْنَ ظُهُورُهُ عَدَدَ مَنْ مَطَى مِنْ خَلْقِكَ

اور حسن کا تلبور تمام جانوں کے لئے رحمت ہے اپنی اس مخلوق کے بغیر جو گر ریجی

وَمَنْ يَقِيْ وَمَنْ سَعِيَ وَنَهُمْ وَمَنْ شَقِيْ صَلَوةً

اور جو باتی ہے اور جوان میں خوش نصیب میں اور جو بد نصیب میں ایسی رحمت

تَسْتَغْرِقُ الْعَدَ وَتُعِيْطُ بِالْحَدِ صَلَوةً لَّا غَایَةَ لَهَا

جو شمار پر بھی حادی ہو اور حد پر بھی غالب ہو جائے ایسی رحمت حس کی نہ ہو

وَلَا مُنْتَهِيٌ وَلَا إِنْقِضَاءٌ صَلَوةً دَائِمَةً بِدَوَامِكَ وَعَلَى

شہادت اور شفای ایسی رحمت جو وہی بھوتیرے دوام کے ساتھ

إِلَهٖ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمٌ تَسْلِيمًا مِثْلَ ذَلِكَ

اور ان کی اولاد اور صحابہ پر رحمت نازل فرماء اور اتنا ہی سلام نازل فرماء

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَالَّذِي مَلَأَتِ قَلْبَهُ

اے اللہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرمائجن کے مبارک دل کو تو نے اپنے جمال

مِنْ جَلَالِكَ وَعَيْنَةً مِنْ جَمَالِكَ فَأَصْبَحَ فِرَحًا مُوَيَّدًا

سے لبریز کر دیا تھا اور جن کی مبارک آنکھ کو اپنے جمال سے لبریز کر دیا تھا کہ وہ

مَنْصُورًا وَعَلَى إِلَهٖ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمٌ تَسْلِيمًا

ہم و قوت مسرور اور صاحب تائید و نصرت رہتے تھے اور ان کی اولاد اور صحابہ پر

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى ذَلِكَ

بھی رحمت نازل فرماء اور اتنا ہی سلام نازل فرماء (هم) اس پر اللہ کا شکر کرتے ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ أَوْرَاقِ

اے اللہ ہمارے آقا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر زینون کے پتوں اور تمام پھلوں

الرَّزَّيْتُونَ وَجَمِيعِ الشَّمَارِ

کے بغیر رحمت نازل فرماء

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا كَانَ

اے ہمارے آقا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرمائے تمام کے بغیر جو وہ کہا

وَمَا يَكُونُ وَعَدَ مَا أَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَأَضَاءَ

اور جو آنہ درہ ہوگا اور ان چیزوں کے بقدر جو پر رات نے تارکی ڈالی اور

عَلَيْهِ النَّهَارُ

ان چیزوں کے بقدر جو پر دن نے روشنی ڈالی

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِهِ

اے اللہ ہمارے آقے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کی بیٹیوں اور

وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ عَدَّا نَفَاقِاسُ أُمَّتِهِ

ان کی اولاد پر ان کی امت کے سامنوں کے بقدر بہت نازل فرمایا

اللَّهُمَّ بِبَرَكَةِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ إِجْعَلْنَا بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ

اے اللہ ان پر درود کی برکت سے ہمیں ان پر درود بھیجنے کی بدولت کامیاب

مِنْ الْفَائِزِينَ وَعَلَى حَوْضِهِ مِنْ الْوَارِدِينَ الشَّارِبِينَ

ہونے والوں اور ان کے حوض پر آکر پینے والوں اور ان کی سنت اور

وَبِسُنْنَتِهِ وَطَاعَتِهِ مِنْ الْعَامِلِينَ وَلَا تَحْلُّ بَيْنَنَا

طاعت پر عمل کرنے والوں میں سے بنا اور ہمارے اور ان کے

وَبَيْنَنَا يَوْمُ الْقِيَمَةِ يَارَبَّ الْعَلَمِينَ وَاغْفِرْ لَنَا

درمیان بروز قیامت رکاوٹ نہ ڈالنا سے رب العالمین اور ہمیں

وَلِوَالِدِينَا وَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ

اور ہمارے آباء کو اور سب مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ

ہر قسم کی حمد اللہ کو زیارت ہے جو تمام جہان کا پروردگار ہے

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى

اے اللہ سیدنا محمد ﷺ پر اور سیدنا محمد ﷺ کی آں پر صلوٰۃ وسلام اور برکت نازل فرمा

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَكْرَمٍ خَلْقَكَ وَسَرَاجٍ أَفْقِكَ

جو بزرگ ترین مخلوقات اور اطراف عالم کے چنان ہیں اور تیرے حق کو سب سے زیادہ ادا

وَأَفْضَلِ قَائِمٍ بِحَقِّكَ الْمُبَعُوتُ بِتَيْسِيرِكَ وَرُفْقِكَ

کرنے والے ہیں جو تیری طرف سے سہولت و فری دے کر بھیج گئے ہیں

صَلُوٰةً يَّتَوَالٰٰ تَكْرَأُهَا وَتَلُوْحٌ عَلَى الْأَكْوَانِ أَنَوْأُرُهَا

ایسی رحمت جس کا دہرا نابارہ روتا ہے اور جس کے افواز موجودات پر چکتے رہیں

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى

اے سیدنا محمد ﷺ اور سیدنا محمد ﷺ کی آں پر صلوٰۃ وسلام اور برکت نازل فرمा

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَفْضَلِ مَمْدُوعٍ بِقَوْلِكَ وَأَشْرَفِ

جو ان تمام سے بہتر ہیں جس کی تیرے قول سے مدح کی گئی ہے اور جنہوں نے میری رسی کو

ذَاعَ لِلْأَعْتِصَامِ بِحَبْلِكَ وَخَاتِمِ أَنْبِيَاكَ وَرُسُلِكَ

مضبوط کرنے کی دعوت دی ہے ان میں سب سے اشرف ہیں اور تیرے انبیاء و رسولوں میں

صَلُوٰةً تُبَلِّغُنَا فِي الدَّارَيْنِ عَمِيمَ فَضْلِكَ وَكَرَامَةَ

سے آخری نبی اور رسول ہیں ایسی رحمت جو ہمیں دیں وہیاں تیرے فضل عالم اور تیری

رَضْوَانِكَ وَوَصْلِكَ

خوشبوی و مقام کے شرف تک بپنچاہے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ

اے اللہ سیدنا محمد ﷺ پر اور سیدنا محمد ﷺ کی آل پر صلوٰۃ وسلام اور برکت نازل فرا

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَكْرَمُ الْكُرْمَاءِ مِنْ عِبَادِكَ وَأَشْرَفِ

جو تیرے بندوں میں سب سے زیادہ کرم والے ہیں اور تیرے بدایت کے راستوں کی طرف منادی

الْمُكَادِينَ لِطُرُقِ رَشَادِكَ وَسِرَاجِ أَقْطَارِكَ وَبَلَادِكَ

کرنے والوں میں افضل ترین ہیں اور تیرے تمام آفاق و ممالک کے چانغ ہیں ایسی رحمت

صَلُوةً لَا تَفْنِي وَلَا تَبْيَدُ تُبَلِّغُنَا بِهَا كَرَامَةَ الْمَزِيدِ

جونہ فنا ہونہ بلاک ہو جس کی بدولت تو ہمیں ترقی کے شرف تک بپنچاہے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اے اللہ سیدنا محمد ﷺ پر اور سیدنا محمد ﷺ کی آل پر صلوٰۃ وسلام اور

أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الرَّفِيعِ مَقَامُهُ الْوَاجِبِ تَعْظِيمُهُ

برکت نازل فرما جن کا مرتبہ بلند اور جس کی تعظیم و احترام

وَاحِدَةِ أُمَّةٍ صَلُوةً لَا تَنْقَطِعُ أَبَدًا وَلَا تَنْفَلِي سَرْمَدًا

واجب ہے ایسی رحمت جو نہ کسی مقتفع ہو اور نہ تابدی ختم ہو

وَلَا تَنْحِصِرُ عَدَدًا

اور نہ شمار میں آسکے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِّ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ

اے اللہ سیدنا محمد ﷺ پر اور سیدنا محمد ﷺ کی آل پر رحمت نازل فرمائی تو نے

عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى أَلِّ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَلَمِيْنِ إِنَّكَ

حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ابیہم علیہ السلام کی آل پر دنیا جان میں رحمت نازل فرمائی تھی،

حَمِيدُ مَحِيدٍ وَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِّ مُحَمَّدٍ

پیش کو تو سرا و رحمدی شان ہے اور اے اللہ سیدنا محمد ﷺ پر اور سیدنا محمد ﷺ کی آل پر رحمت نازل فرمائی تھی

كُلَّمَا ذَكَرَهُ الَّذِنَا كَرُونَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ

جب بھی ان کو یاد کرنے والے یاد کریں اور ان کی یاد سے غفت کرنے والے غافل ہوں

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِّ مُحَمَّدٍ وَأْرْحَمْ

اے اللہ سیدنا محمد ﷺ پر اور سیدنا محمد ﷺ کی آل پر رحمت نازل فرمائی تھی پر اور

مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِّ مُحَمَّدٍ

سیدنا محمد ﷺ کی آل پر شفقت فرمائی تھی پر اور سیدنا محمد ﷺ پر اور سیدنا محمد ﷺ کی آل پر برکت

كَمَا صَلَّيْتَ وَرَحِمْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى

نازل فرمائی تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پر رحمت اور شفقت

أَلِّ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدُ مَحِيدٍ

اور برکت نازل فرمائی تھی پیش کو تو سرا و رحمدی شان ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأَمِّيِّ الطَّاهِرِ

النّبی سیدنا محمد ﷺ پر صلوٰۃ و سلام نازل فرمائج نبی میں اُمیٰں اور

الْمُظَهَّرُ وَعَلَىٰ أَلِهٖ وَسَلِّمٍ

طاهر وظہر میں اور ان کی آپ پر

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مَنْ خَتَمْتَ بِهِ الرِّسَالَةَ وَأَيَّدْتَهُ

الی اس ذات پر رحمت نازل فرماجان سے تو نے سالمہ رسالت کا اختتام فرمایا اور اپنی

بِالنَّصْرِ وَالْكَوْثَرِ وَالشَّفَاعَةِ

مدد اور حوصلہ کوثر اور شفاعة کے ذریعہ ان کی تائید فرمائی

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نَبِيِّ الْحُكْمِ

الی ہمارے آقا سیدنا محمد بن عبد اللہ پر رحمت نازل فرمایا جو حکم اور حکمت والے نبی میں نہیں

وَالْحِكْمَةُ السِّرَاجُ الْوَهَّاجُ الْبَخْصُوصُ بِالْغُلْقُ

روشن چراغ میں عظمت والے اخلاق اور خاتمیت پیغمبر ان کے ساتھ

الْعَظِيمُ وَخَتَمِ الرُّسُلِ ذِي الْمِعْرَاجِ وَعَلَىٰ أَلِهٖ

محسوس میں، صاحب معراج میں اور ان کی آل و اصحاب

وَاصْحَابِهِ وَاتَّبَاعِهِ السَّالِكِينَ عَلَىٰ مَنْهَجِهِ الْقَوِيمِ

اور قیعنیں پر رحمت نازل فرماجان کے سید ہے راست پر چلنے والے

فَاعْظِمْ اللَّهُمَّ بِهِ مِنْهَاجَ نُجُومِ الْإِسْلَامِ

اور اے اللہ وہ کھلا راست کتنا باعظمت ہے وہ اسلام کے شاروں اور تاریکیوں کے

وَمَصَابِيحِ الظَّلَامِ الْمُهَتَدِّي بِهِمْ فِي ظُلْمَةِ لَيْلٍ

چاغوں کا راستہ جن سے نکل وہ پہ کی شب تاریک میں سچی راستہ پایا جاتا ہے

الشَّكِ الدَّاجِ صَلُوٰةً دَائِمَةً مُسْتَمِرَّةً مَاتَلَأَظْمَمُ فِي

اُنکی رحمت کے حب تک سمندروں میں مجھیں جوش باریں رہیں اور بردواری سے آکر

الْأَبْحُرِ الْأَمْوَاجُ وَظَافِ إِلَيْبِيْتِ الْعَتِيقِ مِنْ كُلِّ فَجٍّ

چ گرتے والے بیت اللہ کا طاف کرتے رہیں وہ رحمت قائم اور دامبر بے

عَيْقِيْنَ الْحَجَاجُ وَأَفْضُلُ الصَّلُوٰةِ وَالْتَّسْلِيمِ عَلَىٰ

اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہترین صلوٰۃ وسلام ہو جو اللہ کے محترم رسول اور بندوں میں

مُحَمَّدٌ رَسُولُهُ الْكَرِيمُ وَصَفْوَتُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَشَفِيعُ

اس کے انتخاب کئے ہوئے ہیں اور حضرت کے دن تمام خلوقات کی شفاعت کرنے والے ہیں

الْخَلَاثِيْقِ فِي الْمِيَعَادِ صَاحِبِ الْمَقَامِ الْمَحْمُودِ

مقام محمود والے ہیں اور حضن کوڑا والے ہیں جہاں لوگ اتریں گے

وَالْحَوْضِ الْمَوْرُودِ النَّاهِضِ بِأَعْبَاءِ الرِّسَالَةِ

تمام ہائکو شال رسالت اور تبلیغ کے بارگاں کے اخوانے والے ہیں

وَالْتَّبَلِيْغِ الْأَعْمِ وَالْمَخْصُوصِ بِشَرَفِ السِّعَايَةِ فِي

اور عظیم اصلاح کی سماں کے شرف کے ساتھ مخصوص ہیں

الصَّلَاحِ الْأَعْظَمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَلِهِ صَلُوٰةً

اللہ کی رحمتیں ہوں ان پر اور ان کی آل پر دام

دَائِمَةً مُسْتَمِرَّةً الدَّوَامِ عَلَىٰ مَرِّ اللَّيَالِيِّ وَالْأَيَامِ

بہیشہ بیشتر تک راتوں اور دنوں کے لگزرنے کے ساتھ ساتھ

فَهُوَ سَيِّدُ الْأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ وَأَفْضَلُ الْأَوَّلِينَ

کوہ گلوں اور پچھلوں کے سداریں اور تمام الگوں اور پچھلوں سے

وَالآخِرِينَ عَلَيْهِ أَفْضَلُ صَلَاةُ الْمُصَلِّيْنَ وَأَزْكَى

اُفضل میں ان پر درود پڑھنے والوں کا درود ہوا اور سلام کیجئے والوں کا

سَلَامُ الْمُسِلِّمِينَ وَأَطْيَبُ ذِكْرِ النَّادِيْرِيْنَ وَأَفْضَلُ

پاکیزہ تر سلام ہوا ذکر کرنے والوں کا نقشہ تر ذکر خیر ہو

صَلَوَاتِ اللَّهِ وَأَحْسَنُ صَلَوَاتِ اللَّهِ وَأَجَلُ صَلَوَاتِ

اور اللہ کی افضل ترین رحمت ہوا اور بڑی شاندار اللہ کی رحمت ہوا اور بزرگ تر اللہ کی رحمت ہو

اللَّهُ وَأَجْمَلُ صَلَوَاتِ اللَّهِ وَأَكْمَلُ صَلَوَاتِ اللَّهِ وَأَسْبَغُ

اور خوبصورت ترین اللہ کی رحمت ہوا اور کامل ترین اللہ کی رحمت ہوا اور سچ ترین

صَلَوَاتِ اللَّهِ وَأَتَمُ صَلَوَاتِ اللَّهِ وَأَظْهَرُ صَلَوَاتِ اللَّهِ

اللہ کی رحمت ہوا اور تمام ترین اللہ کی رحمت ہوا اور واضح ترین اللہ کی رحمت ہو

وَأَعْظَمُ صَلَوَاتِ اللَّهِ وَأَذْكَى صَلَوَاتِ اللَّهِ وَأَطْيَبُ

اور عظیم تر اللہ کی رحمت ہوا اور پاک ترین اللہ کی رحمت ہوا اور نقش ترین

صَلَوَاتِ اللَّهِ وَأَجْرَكُ صَلَوَاتِ اللَّهِ وَأَزْكَى صَلَوَاتِ اللَّهِ

اللہ کی رحمت ہوا اور مبارک ترین اللہ کی رحمت ہوا اور پاکیزہ ترین

وَأَنْبَى صَلَوَاتِ اللَّهِ وَأَوْفَى صَلَوَاتِ اللَّهِ وَأَسْبَى

اللہ کی رحمت ہوا اور ترقی پانے والی اللہ کی رحمت ہوا اور کامل ترین اللہ کی رحمت ہو

صَلَوَاتِ اللَّهِ وَأَعْلَى صَلَوَاتِ اللَّهِ وَأَكْثُرُ صَلَوَاتِ اللَّهِ

اور دشمن ترین اللہ کی رحمت ہو اور اعلیٰ ترین اللہ کی رحمت ہو اور کثیر ترین اللہ کی رحمت ہو

وَاجْمَعْ صَلَوَاتِ اللَّهِ وَأَعْمَمْ صَلَوَاتِ اللَّهِ وَأَدْوَمْ

اور جامع ترین اللہ کی رحمت ہو اور عام ترین اللہ کی رحمت ہو اور اعمم ترین

صَلَوَاتِ اللَّهِ وَأَبْقَى صَلَوَاتِ اللَّهِ وَأَعَزَّ صَلَوَاتِ اللَّهِ

اللہ کی رحمت ہو اور پائیدار ترین اللہ کی رحمت ہو اور ممزور ترین اللہ کی رحمت ہو

وَأَزْفَعْ صَلَوَاتِ اللَّهِ وَأَعْظَمْ صَلَوَاتِ اللَّهِ عَلَى أَفْضَلِ

اور بلشد ترین اللہ کی رحمت ہو اور عظیم ترین اللہ کی رحمت ہو اس ذات (سیدنا محمد ﷺ) پر

خَلْقِ اللَّهِ وَأَحْسَنِ خَلْقِ اللَّهِ وَأَجَلِّ خَلْقِ اللَّهِ وَأَكْرَمِ

جو اللہ کی تمام مخلوق میں افضل ہیں اور مخلوقات الہیہ میں حسین ترین ہیں اور مخلوقات الہیہ میں برگ ترین ہیں

خَلْقِ اللَّهِ وَأَجْمَلِ خَلْقِ اللَّهِ وَأَكْمَلِ خَلْقِ اللَّهِ وَأَتَمِّمِ

اور مخلوقات الہیہ میں کم ترین ہیں اور مخلوقات الہیہ میں بچیل ترین ہیں اور مخلوقات الہیہ میں اکمل ہیں

خَلْقِ اللَّهِ وَأَعْظَمِ خَلْقِ اللَّهِ عِنْدَ اللَّهِ رَسُولِ اللَّهِ وَنَبِيِّ

اور مخلوقات الہیہ میں کامل ترین ہیں اور مخلوقات الہیہ میں عظیم ترین ہیں اللہ کے نزدیک ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں

اللَّهُ وَحْبِيْبُ اللَّهِ وَصَفِيْ اللَّهِ وَنَجِيْ اللَّهِ وَخَلِيلُ اللَّهِ

اور اللہ کے نبی ہیں اللہ کے بیارے ہیں اور اللہ کے برگزیدہ ہیں اللہ سے باقی کریم ہائے ہیں اللہ کے

وَوَلِيٌّ اللَّهِ وَأَمِيْنِ اللَّهِ وَخَيْرَةِ اللَّهِ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ وَنُخْبَةٌ

دوسٹ ہیں اللہ کے مقرب ہیں اللہ کے امین ہیں اللہ کی مخلوق میں اللہ کے پند کے ہوئے ہیں

اللَّهُ مِنْ بَرِّيَّةِ اللَّهِ وَصَفْوَةِ اللَّهِ مِنْ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ وَعُرْوَةً

مخلوقات الہیم میں اللہ کے انتخاب کے ہوئے ہیں، اللہ کے نبیوں میں اللہ کے پھیے ہوئے ہیں، اللہ کی

اللَّهُ وَعِصْمَةُ اللَّهِ وَنِعْمَةُ اللَّهِ وَمُفْتَاحُ رَحْمَةِ اللَّهِ

رسی ہیں، اللہ کی خاص حفاظت میں ہیں، نعمت الہیم ہیں کلید رحمت خداوندی ہیں، پیغمبر ان خدامیں

الْمُخْتَارِ مِنْ رُسُلِ اللَّهِ الْمُنْتَخَبِ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ

سے پھیے ہوئے ہیں، ساری مخلوق خدامیں سے انتخاب کے ہوئے ہیں،

الْفَائِزُ بِالْمَطْلَبِ فِي الْمَرْهَبِ وَالْمَرْغِبِ الْمُخْلِصِ

ہر امید و خوف میں مرادیاں ہیں، خصوصی عطاوں سے ہرہ مند ہیں،

فِيهَا وُهِبَ أَكْرَمُ مَبْعُوثٍ أَصْدَقٍ قَائِلٍ أَنْجَحُ شَافِعٍ

کہترین بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، بے حد پچے قائل ہیں، کامیاب شفاعت کرنے والے ہیں،

أَفْضَلُ مُشَفَّعٍ بِالْأَمِينِ فِيهَا اسْتُوْدَعَ الصَّادِقِ فِيهَا

افضل شفاعت کئے گئے ہیں، جو دوستی خواہ کی اگئی اس کا حق امامت داری پورا کرنے والے ہیں،

بَلَّغَ الصَّادِعُ بِإِمْرِ رَبِّهِ الْمُضْطَلِعُ بِمَا حُمِّلَ أَقْرَبِ

اور اللہ کے حکم کو پیچانے میں سچے ہیں، اپنے رب کا حکم بے جھگ سانے والے ہیں، با رسالت اٹھانے

رُسُلِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ وَسِيلَةٌ وَأَعْظَمُهُمْ غَدَّاً عِنْدَ اللَّهِ

میں ثابت قدم رہنے والے ہیں، رسولوں میں سے اللہ کی طرف تربیت ہیں وسیلہ ہیں اور کل قیامت میں

مَنْزِلَةً وَفَضِيلَةً وَأَكْرَمُ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ الْكَرَامُ الصَّفَوَةُ

اللہ کے ہاں ان سب میں بڑی منزلت اور فضیلت والے ہیں، اللہ کے بزرگ اور بزرگ زیدہ نبیوں

عَلَى اللَّهِ وَأَحِمِّهِمْ إِلَى اللَّهِ وَأَقْرِبُهُمْ زُلْفَى لَدَى اللَّهِ

میں بزرگ ترین، اللہ کے نزدیک بے عیوب، اللہ کے سب سے زیادہ بیمارے، اللہ کے

وَأَكْرَمُ الْخَلْقِ عَلَى اللَّهِ وَأَحْظَاهُمْ وَأَرْضَاهُمْ لَدَى

سب سے زیادہ مقرب، تمام خلق سے اللہ کے نزدیک زیادہ محظوظ اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ

اللَّهُ وَأَعْلَى النَّاسِ قُدْرًا وَأَعْظَمُهُمْ مَحَلًا وَأَكْمَلُهُمْ

بہرہ باب و پسندیدہ، سب لوگوں سے زیادہ عالی قدر اور عالی مقام اور حسن و فضل کے لحاظ سے

مَحَاسِنًا وَفَضْلًا وَأَفْضَلُ الْأَنْبِيَا إِذْرَاجَةً وَأَكْمَلُهُمْ

سب سے اکمل، مرتبہ کے اعتبار سے سب انبیاء سے بڑے، اور باعتبار شریعت اکمل، اور انہیں میں

شَرِيعَةً وَأَشْرَفِ الْأَنْبِيَا إِنْصَابًا وَأَبْيَانَهُمْ بَيَانًا

باعتبار ناصاب اشرف اور باعتبار اطہار و اعلان بہترین مقررین، اور باعتبار

وَخَطَابًا وَأَفْضَلُهُمْ مَوْلَدًا وَمُهَاجَرًا وَعِتَرَةً وَأَصْحَابًا

جائے ولادت و مقام بھرت و کنبد و صحابہ کے سب میں افضل ہیں، باعتبار اصل سب میں زیادہ کرم

وَأَكْرَمُ النَّاسِ أَرْوَمَةً وَأَشْرَفُهُمْ جُرْثُونَمَةً وَحَيْرِهِمْ نَفْسًا

اور باعتبار شریف ترین، باعتبار ذات کے بہترین، باعتبار قلب کے پاک ترین،

وَأَطْهَرُهُمْ قُلُبًا وَأَصْدَقُهُمْ قَوْلًا وَأَزْكَاهُمْ فِعْلًا وَأَبْتَتُهُمْ

باعتبار قول سب میں زیادہ پیچے اور باعتبار قلب پاکیزہ ترین، سب میں زیادہ ثابت الامل، سب سے زیادہ

أَصْلًا وَأَوْفَاهُمْ عَهْدًا وَأَمْكَنُهُمْ مَجْدًا وَأَكْرَمُهُمْ طَبْعًا

وعده پورا کرنے والے ہیں سب سے زیادہ مسلکم بزرگی والے، سب سے زیادہ نفس الطبع،

وَأَحْسِنُهُمْ صُنْعًا وَأَطْبَيْهُمْ فَرْعَانًا وَأَكْثَرُهُمْ طَاعَةً وَسَيْئًا

سب سے زیادہ اچھے کاموں والے، سب سے زیادہ اچھے نتیجے والے اور سب سے زیادہ اللہ کی بارے اور سنے والے

وَأَعْلَاهُمْ مَقَامًا وَأَخْلَاهُمْ كَلَامًا وَأَزَّكَاهُمْ سَلَامًا

اور سب سے برتر مرتبہ والے، سب سے زیادہ شیریں کلام اور سب سے زیادہ پاکیزہ سلام والے،

وَأَجَلِّهُمْ قُدْرًا وَأَعْظَيْهُمْ فَخْرًا وَأَسْنَاهُمْ فَخْرًا

سب سے اعلیٰ منزلت والے اور فخر کے اعتبار سے سب سے اعظم اور ناز کے اعتبار سے سب سے روشن تر

وَأَرْفَعُهُمْ فِي الْمَلَأِ الْأَعْلَى ذُرْرًا وَأَوْفَاهُمْ عَهْدًا

اور گروہ ملائکہ میں تذکرہ کے اعتبار سے بلند ترین، سب سے زیادہ عہد پورا کرنے والے

وَأَصْدَقُهُمْ وَعْدًا وَأَكْثَرُهُمْ شُكْرًا وَأَعْلَاهُمْ أَمْرًا

اور سب سے زیادہ وعدہ کے سچے اور سب سے زیادہ شکر اور سب سے اوپرے حکم والے

وَأَجْمَلُهُمْ صَبْرًا وَأَحْسِنُهُمْ خَيْرًا وَأَقْرَبُهُمْ يُسْرًا

اور سب سے زیادہ صابر اور سب سے خوب تیکیوں والے اور قریب ترین بخلاظہ سبوت

وَأَبْعَدُهُمْ مَكَانًا وَأَعْظَمُهُمْ شَأْنًا وَأَثْبَتُهُمْ بُرْهَانًا

اور بیشترین بخلاظہ مرتبہ اور سب سے بڑی شان والے، سب سے زیادہ مضبوط دلیں والے،

وَأَرْجَحُهُمْ مِيزَانًا وَأَوْلَهُمْ إِيمَانًا وَأَوْضَحُهُمْ بَيَانًا

سب سے زیادہ بھی جوئی ترازو والے اور سب سے اول ایمان لانے والے،

وَأَفْسَحُهُمْ لِسَانًا وَأَظْهَرُهُمْ سُلْطَانًا

سب سے زیادہ واضح تقریر والے، سب سے زیادہ فتح زبان اور سب سے زیادہ واضح اقتدار والے

چوتھی منزل بروز جمعرات

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الْأَمِينِ

اے اللہ رحمت نازل فرمادین محمد علیہ السلام اپنے بنے اپنے پیغمبر نبی امی پر اور

وَعَلَى أَلِّ مُحَمَّدٍ

آل سیدنا محمد علیہ السلام پر

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِّ مُحَمَّدٍ صَلْوَةً تَكُونُ

آل سیدنا محمد علیہ السلام پر اور آل سیدنا محمد علیہ السلام پر ایسی رحمت نازل فرمادین میرے لئے خوشودی

لَكَ رِضَىٰ وَلَهُ جَزَاءٌ وَلِحَقِّهِ أَدَاءٌ وَأَعْطِهِ الْوَسِيلَةَ

اور ان کے لئے حملہ اور ان کے حق کی ادائیگی کا سبب ہوا اور ان کو وسیلہ اور فضیلت اور

وَالْفَضِيلَةَ وَالْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعْدْتَهُ وَاجْزَهَا

مقام مُحَمَّد عطا فرمادیں کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے اور ان کو ہماری طرف سے

عَنَّا مَا هُوَ أَهْلُهُ وَاجْزِهَا أَفْضَلُ مَا جَازَيْتَ بِهِ تَبَيَّنَ عَنْ

وہ جزا دے جس کے وہ مقتضی ہیں اور ان کو اس سے بہتر بدلہ عطا فرمادیوں کے سی نبی کو

قَوْمِهِ وَرَسُولًاً عَنْ أُمَّتِهِ وَصَلِّ عَلَى جَمِيعِ إِخْرَانِهِ مِنْ

اس کی قوم کی طرف سے اور کسی رسول کو اس کی امت کی طرف سے عطا کیا ہو

الثَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ

اور ان کے تمام برادران انبیاء علیہم السلام اور مسلمانوں پر رحمت نازل فرمائی

يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

اے رحم الرحيم

اللَّهُمَّ اجْعَلْ فَضَائِلَ صَلَواتِكَ وَشَرَائِفَ زَكَواتِكَ

اللہی اپنے بہترین صلوٰۃ و سلام اور اپنی برتری پا کیزیں گیاں اور

وَنَوَاعِي بَرَكَاتِكَ وَعَوَاطِفَ رَأْفَتِكَ وَرَحْمَتِكَ

برہمنے والی برکتیں اور شفقت اور رحمت اور تھائف

وَتَحِيَّتِكَ وَفَضَائِلَ الْأَعِيُّكَ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

کی عنایتیں اور اپنے بڑے چڑھے اعلامات سیدنا محمد ﷺ پر

الْمُرْسَلِينَ وَرَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَائِدِ الْخَيْرِ

مازل فرماجو انبیاء علیہم السلام کے مردار پروردگار عالم کے رسول ہیں، خوبیوں کے سالار

وَفَاتِحِ الْبَرِّ وَنَيِّي الرَّحْمَةِ وَسَيِّدِ الْأُمَّةِ

اور حسن سلوک کے فاتح اور رحمت والے نبی اور مردار ہیں

اللَّهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَاماً مَّحْمُودًا تُنْزِلُ فِيهِ قُرْبَةً وَتُقْرِبْهُ

اللہی ان کو اس مقام مُحَمَّد میں پہنچا جس سے تو ان کا قرب بڑھائے اور ان کی آنکھیں بھٹکی

عَيْنَةَ يَغْبُطُهُ إِلَّا لَوْنَ وَالْأَخْرُونَ

کرے اور اس کی وجہ سے سب الگلگ اور پچھلے ان پر رنگ کریں

اللَّهُمَّ أَعْطِهِ الْفَضْلَ وَالْفَضْيَلَةَ وَالشَّرَفَ

اہی ان کو فضل اور فضیلت اور شرف اور وسیلہ اور بلند درجہ

وَالْوَسِيلَةُ وَالدَّرْجَةُ الرَّفِيعَةُ وَالْمَنْزَلَةُ الشَّامِخَةُ

اور اونچا مرتبہ عطا فرما

اللَّهُمَّ أَعْطِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَبِلْغَةَ مَأْمُولَةَ وَاجْعَلْهُ

اللّٰہ سیدنا محمد ﷺ کو وسیلہ عطا فرم اور ان کو ان کی مراد تک پہنچا اور ان کو یہاں لے

أَوَّلْ شَافِعٍ وَأَوَّلْ مُشْفِعٍ

شفاعت کرنے والا اور پہلا مقبول شفاعت بنا

اللَّهُمَّ عَظِّمْ بُرْهَانَهُ وَثِقْلَ مِيزَانَهُ وَأَبْلِجْ حَجَّةَ

اے اللہ ان کی دلیل کو عظمت بخش اور ان کے ترازو کو وزنی کر

وَارْفَعْ فِي أَهْلِ عِلْيَيْنَ دَرَجَتَهُ وَفِي أَعْلَى الْمُقَرَّبَيْنَ

اور ان کی جدت کو روشن کر اور اہل علیمین میں اور اعلیٰ مقرر بیان میں

مَنْزِلَةُ

الكامرتة ودرجه بلند فرما

اللَّهُمَّ أَخْبِنَا عَلَى سُنْتِهِ وَتَوَفَّنَا عَلَى مِلْتَهِ وَاجْعَلْنَا

اے اللہ ہمیں ان کی سنت یہ زندہ رکھ اور ان کی ملت یہ رمودے

٦٣٠ من أهل شفاعته وأحشرنا في زمرةه وأوردنَا

اور ہمیں ان کی شفاقت کے قابل بنا اور ہمارا حشران کی جماعت میں فرماؤر

حَوْضَةٌ وَاسْقِنَا مِنْ كَاسِهِ غَيْرَ حَزَّاً يَا وَلَادَمِينَ

بھیں ان کے جوش پر لے آنا اور ان کے پیار سے پانا اس حال میں کہنے ہم سوا

وَلَا شَاكِينَ وَلَا مُبَدِّلِينَ وَلَا مُغَيِّرِينَ وَلَا فَاتِنِينَ

ہوں نہ پیمان اور نہ تجھ کھیں متبدل ہتھیر کریں اور نہ کسی کو فتنہ میں ڈالیں

وَلَا مَفْتُونِينَ أَمِينَ يَارَبَ الْعَالَمِينَ

اور نہ خود فتنہ میں بٹلا ہوں آمین اے رب العالمین

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَأَعْطِهِ

اللّٰہ بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پا اور آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرماء اور ان کو

الْوَسِيلَةُ وَالْفَضِيلَةُ وَالدَّرَجَةُ الرَّفِيعَةُ وَابْعَثْهُ

وسیلہ اور فضیلت اور بلند درج عطا فرماء اور ان کو ممتاز محدود میں بھیج جس کا تو نے ان سے

الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ الَّذِي وَعَدْتَهُ مَعَ إخْوَانِهِ الْغَبِيِّينَ

وعدہ فرمایا ہے، ان کے برادر ان بھیجا ہے علم السلام کے ساتھ

صَلِّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ نَّبِيِّ الرَّحْمَةِ وَسَيِّدِ الْأُمَّةِ وَعَلَى

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت والنبی اور سردار امت پا اور ہمارے باب

أَبِيهَا سَيِّدِنَا أَدَمَ وَأَمِنَا سَيِّدِنَا حَوَاءَ وَمَنْ وَلَدَا

حضرت آدم علیہ السلام پر اور ماں حضرت حوا علیہ السلام پر اور جوان سے

مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشَّهِدَاءِ وَالصَّالِحِينَ

پیغمبر اے انبیاء و صدیقین اور شہداء اور صالحین سب پر اللہ کی رحمت ہوں

وَصَلِّ عَلَى مَلَائِكَتِكَ أَجْمَعِينَ مِنْ أَهْلِ السَّمَوَاتِ

اور رحمت نازل فرما پسند فرشتوں پر آسمان والے ہوں یا زمین والے

وَالْأَرْضِينَ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

اور ان کے ساتھ ہم پر بھی اے ارحم الرحیمین

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَلِوَالِدَيَ وَارْحَمْهُمَا كَمَا

اللہی میرے گتابوں کو معاف فرمادے اور میرے والدین کے گتابوں کو معاف فرمادے

رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَلِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

اور ان پر حمایت ماجیسا انہوں نے مجھ کو چھوٹے سے پالا تھا اور تمیام موسیٰن مردوں اور

وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ

موسیٰن عورتوں کے اور مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے گتابوں کو معاف فرمادے

وَالْأُمَوَاتِ وَتَابَعَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ بِالْخَيْرَاتِ

زندوں کے بھی اور خردوں کے بھی اور ہمیں ان کے ساتھ ہمیں بھیوں میں شامل فرمایا

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ

اے رب مغفرت اور رحم فرماؤ کہ تو سب مہربانوں سے بڑھا ہو بے

وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

اور نہ زور ہے نہ طاقت مگر اللہ بر ترا باعظمت سے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نُورِ الْأَنْوَارِ

اے اللہ سید نا محمد ﷺ پر رحمت نازل فرمائج نوروں کے نور اور

وَسِرِّ الْأَسْرَارِ وَسِيِّدِ الْأَبْرَارِ وَزَيْنِ الْمُرْسَلِينَ

رازوں کے راز اور تکلیک روزوں کے سردار اور اہل خیر پتوں کی زینت ہیں

الْأَخْيَارِ وَأَكْرَمِ مَنْ أَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَأَشْرَقَ

اور تمام اس مخلوق میں نصیح ترین ہے جن پر رات نے تاریکی ڈالی اور دن نے

عَلَيْهِ النَّهَارُ عَدَدُ مَانَزَلٍ مِنْ أَوَّلِ الدُّنْيَا إِلَى

نورچ کیا بارش کے ان قطروں کے بغیر جو ابتداء دنیا سے لے کر

أَخِرُّهَا مِنْ قَطْرِ الْأَمْطَارِ وَعَدَدُ مَا نَبَتَ مِنْ أَوَّلِ

ختم دنیا تک پکے اور ان پودوں اور رنگوں کے بغیر جو ابتداء دنیا

الْدُّنْيَا إِلَى أَخِرُّهَا مِنَ التَّبَاتِ وَالْأَشْجَارِ صَلْوَةً

سے لے کر ختم دنیا تک اگے ایسی رحمت جو اللہ واحد تعالیٰ

ذَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

کی شہنشاہی کی پیشگوئی ہے۔ ہیئت ربے

۱ ● اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةً تُكْرِمُ بِهَا

اے اللہید نا مغمض لیلیت پر اسی رحمت نازل فرماجس سے تو ان کی قیام گاہ کو عزت بخش

مَثُواهُ وَتُشَرِّفُ بِهَا عُقبَاهُ وَتُبَلِّغُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ

اور ان کی آخرت کو شرف بخشے اور انہیں بروز قیامت ان کی مراد اور

مُنَاهَهُ وَرَضَاهُ هُنَيْهُ الصَّلَاةُ تَعْظِيَّهَا لِحَقِّكَ

ان کی خواہش کو پہنچائے یہ درود آپ کے حق کی عظمت ظاہر کرنے کے لئے ہے

يَا سَيِّدَنَا مُحَمَّدُ

اے ہمارے سردار مجید سے

۱۱۲ ﴿۱﴾ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةً تُكَرِّمُ بِهَا

اے اللہ سیدنا محمد سے پر اسی رحمت نازل فرماجس سے تو ان کی قیام گاہ کو عزت بخشد

مَثُواهُ وَتُشَرِّفُ بِهَا عُقْبَاهُ وَتُبَلِّغُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ

اور ان کی آخرت کو شرف بخشد اور انہیں بروز قیامت ان کی مراد اور

مُنَاءُ وَرِضَاهُ هَذِهِ الصَّلَاةُ تَعْظِيَّةً لِحَقِّكَ

ان کی خواہش کو پہنچائے یہ درود آپ کے حق کی عظمت ظاہر کرنے کے لئے ہے

يَا حَبِيبَ اللَّهِ

اے اللہ کے حبیب سے

۱۱۲ ﴿۲﴾ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةً تُكَرِّمُ بِهَا

اے اللہ سیدنا محمد سے پر اسی رحمت نازل فرماجس سے تو ان کی قیام گاہ کو عزت بخشد

مَثُواهُ وَتُشَرِّفُ بِهَا عُقْبَاهُ وَتُبَلِّغُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ

اور ان کی آخرت کو شرف بخشد اور انہیں بروز قیامت ان کی مراد اور

مُنَاءُ وَرِضَاهُ هَذِهِ الصَّلَاةُ تَعْظِيَّةً لِحَقِّكَ

ان کی خواہش کو پہنچائے یہ درود آپ کے حق کی عظمت ظاہر کرنے کے لئے ہے

يَا رَسُولَ اللَّهِ

اے اللہ کے رسول سے

۱ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَمَّا الرَّحْمَةِ وَمِيمَّيِ

الی سیدنا محمد ﷺ پر رحمت نازل فرمـا (جن کے نام کی) رحمت کی ہے اور دونوں میم

الْمُلْكٌ وَدَالِ الدَّوَامِ السَّيِّدُ الْكَاملُ الْفَاتِحُ الْخَاتِمُ

دنیا و آخرت کی بادشاہی کے اور دام کا مکمل ہے سردار ہیں کامل ہیں ابتداء و انتہاء والے ہیں

عَدَّدَمَا فِي عَلِيِّكَ كَائِنٌ أَوْقَدَ كَانَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ

اپنی معلومات کے بقدر چاہے ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے جب کبھی تیرے اور ان کا ذکر

الَّذَا كَرُونَ وَكُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ

کرنے والے ذکر کریں اور جب بھی تیرے اور ان کے ذکر سے غفلت کرنے والے

صَلُوةً دَائِمَةً بِدَوَامِكَ بَاقِيَةً بِسَقَائِكَ لَامْنَتْهِي لَهَا

غافل ہوں اسی رحمت جو تیرے دام کے ساتھ اگئی ہو اور تیرے بنا کے ساتھ باقی رہے

دُونَ عِلْمِكَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

جن کی تیرے علم سے درے انتہاء ہو بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے

۲ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَمَّا الرَّحْمَةِ وَمِيمَّيِ

الی سیدنا محمد ﷺ پر رحمت نازل فرمـا (جن کے نام کی) رحمت کی ہے اور دونوں میم

الْمُلْكٌ وَدَالِ الدَّوَامِ السَّيِّدُ الْكَاملُ الْفَاتِحُ الْخَاتِمُ

دنیا و آخرت کی بادشاہی کے اور دام کا مکمل ہے سردار ہیں کامل ہیں ابتداء و انتہاء والے ہیں

عَدَّدَمَا فِي عَلِيِّكَ كَائِنٌ أَوْقَدَ كَانَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ

اپنی معلومات کے بقدر چاہے ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے جب کبھی تیرے اور ان کا ذکر

الذَّا كَرُونَ وَكُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ

کرنے والے ذکر کریں اور جب بھی تیرے اور ان کے ذکر کے غفلت کرنے والے

صَلُوٰةً دَائِمَةً بِدَوَامِكَ بَاقِيَةً بِبَقَائِكَ لَامْنَتَهِي لَهَا

غافل ہوں ایسی رحمت جو تیرے دوام کے ساتھ داگی ہو اور تیری بقا کے ساتھ باقی رہے

دُونَ عِلْمِكَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

جس کی تیرے علم سے درے انتہاء نہ ہو بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے

۲۰ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَمَّلَ الرَّحْمَةَ

البی سیدنا محمد ﷺ پر رحمت نازل فرماء (جن کے نام کی) رحمت کی ہے اور دونوں میم

وَمِيمَنَا الْمُلْكِ وَدَالُ الدَّوَامِ السَّيِّدُ الْكَامِلُ الْفَاتِحُ

دنیا و آخرت کی بادشاہی کے اور دال دوام کا ہے سردار میں کامل میں ابتداء و انتہاء والے میں

الْخَاتِمِ عَدَدَ مَا فِي عِلْمِكَ كَائِنٌ أَوْقَدْ كَانَ كُلَّمَا

اپنی معلومات کے بغیر چاہے ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے جب بھی تیرے اور ان کا ذکر

ذَكَرَكَ وَذَكَرُهُ الذَّا كَرُونَ وَكُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ

کرنے والے ذکر کریں اور جب بھی تیرے اور ان کے ذکر کے غفلت کرنے والے

وَذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ صَلُوٰةً دَائِمَةً بِدَوَامِكَ بَاقِيَةً بِبَقَائِكَ

غافل ہوں ایسی رحمت جو تیرے دوام کے ساتھ داگی ہو اور تیری بقا کے ساتھ باقی رہے

لَامْنَتَهِي لَهَا دُونَ عِلْمِكَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

جس کی تیرے علم سے درے انتہاء نہ ہو بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَالنَّبِيِّ الْأَعْظَمِ وَعَلَى أَلِيٍّ

اے اللہ سیدنا محمد ﷺ نبی ای پر رحمت نازل فرماؤں سیدنا محمد ﷺ پر رحمت

مُحَمَّدٌ وَالَّذِي هُوَ أَبْهَى شُمُوسُ الْهُدَى نُورًا

نازل فرماجو کہ تمام بہادیت کے سورجوں سے بے حد صاف چک دار روشنی والے ہیں

وَأَبْهَرُهُمَا وَأَسْيَرُ الْأَنْبِيَاءَ فَخَرَّا وَأَشْهَرُهُمَا وَنُورُهُمَا

اور تمام نبیوں میں باعتبار فخر بر تراور شہر ترین ہیں اور ان کا نور تمام نبیوں کے انوار سے

أَزَّهَرُ الْأَنْوَارِ الْأَنْبِيَاءَ وَأَشْرَقُهُمَا وَأَوْضَعُهُمَا وَأَزَّكَهُمَا

زیادہ صاف اور پچھلیا اور کھلا ہوا ہے اور ساری مخلوق میں عادتوں کے لحاظ سے بے حد

الْخَلِيلَيْقَةِ أَخْلَاقًا وَأَطْهَرُهُمَا وَأَكْرَمُهُمَا خَلْقًا وَأَعْدَلُهُمَا

صف سترے اور پاک ہیں اور اعضاء بدن کے لحاظ سے سب سے زیادہ نیس اور معتدل ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَالنَّبِيِّ الْأَعْظَمِ وَعَلَى أَلِيٍّ

النبی سیدنا محمد ﷺ نبی ای پر اور آل سیدنا محمد ﷺ پر رحمت نازل فرمـا

مُحَمَّدٌ وَالَّذِي هُوَ أَبْهَى مِنَ الْقَمَرِ النَّاَمِ وَأَكْرَمُ مِنَ

جو کوہ پورے چاند سے بھی روشن تر اور دھواں دھار برنسے والے بادل

السَّحَابِ الْمُرْسَلَةِ وَالْبَعْرِ الْحَظِيرِ

اور دریائے ناپیدا کنار سے بھی زیادہ تھی میں

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَالنَّبِيِّ الْأَعْظَمِ وَعَلَى أَلِيٍّ

النبی سیدنا محمد ﷺ نبی ای پر اور آل سیدنا محمد ﷺ پر رحمت نازل فرمـا

مُحَمَّدٌ بِالَّذِي قُرِئَتِ الْبَرَكَةُ بِذَاتِهِ وَمُحَيَاةٌ

جن کی ذات اور ورنے مبارک کے ساتھ برکت ملی ہوئی

وَتَعَظَّرَتِ الْعَوَالِمُ بِطِيبِ ذُكْرِهِ وَرَيَاةٌ

اور جن کے ذکر اور مظہر سے تمام عالم معطر ہو گئے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِيٍّ وَسَلِّمُ

اللہ سیدنا محمد ﷺ پر اور ان کی آل پر صلوٰۃ وسلام نازل فرمائی

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِيٍّ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ عَلَى

اللہ سیدنا محمد ﷺ پر اور آل سیدنا محمد ﷺ پر رحمت نازل فرماء، اور سیدنا محمد ﷺ پر

مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِيٍّ مُحَمَّدٍ وَأَرْحَمْ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ

اور آل سیدنا محمد ﷺ پر برکت نازل فرماء، اور سیدنا محمد ﷺ پر اور آل سیدنا محمد ﷺ پر

كَمَا صَلَيْتَ وَبَارَكْتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى

شفقت فرمی رحمت اور برکت اور شفقت تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور

أَلِي إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَبِيدُ مَجِيدُ

آل ابراہیم علیہ السلام پر فرمائی تھی بے شک تو سزا اور حادثہ ذی شان ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ

اللہ سیدنا محمد ﷺ پر رحمت نازل فرمایا جاتا ہے بندے تیرے نبی اور تیرے رسول اور نبی ای ہیں

النَّبِيُّ الْأَقْرَبُ وَعَلَى أَلِيٍّ مُحَمَّدٍ

اور آل سیدنا محمد ﷺ پر رحمت نازل فرمائی

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلٍ مُحَمَّدٍ مِّلَّا الدُّنْيَا

اُبی رحمت نازل فرمادیں محمد ﷺ پر اور آل سیدنا محمد ﷺ پر جس سے دنیا و آخرت

وَمِلَّا الْآخِرَةِ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلٍ مُحَمَّدٍ مِّلَّا

لبریز ہو جائے اور سیدنا محمد ﷺ پر اور آل سیدنا محمد ﷺ پر کتنی اسار جس سے

الدُّنْيَا وَمِلَّا الْآخِرَةِ وَأَرْحَمْ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ

دنیا و آخرت لبریز ہو جائے اور سیدنا محمد ﷺ پر اور آل سیدنا محمد ﷺ پر شفقت فرمائیں

مِلَّا الدُّنْيَا وَمِلَّا الْآخِرَةِ وَاجْزُ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ

جس سے دنیا و آخرت لبریز ہو جائے اور سیدنا محمد ﷺ پر اور آل سیدنا محمد ﷺ پر اور

مِلَّا الدُّنْيَا وَمِلَّا الْآخِرَةِ وَسَلِّمْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلٍ

کو حصلہ بخشن جس سے دنیا و آخرت لبریز ہو جائے اور سیدنا محمد ﷺ پر اور

مُحَمَّدٍ مِلَّا الدُّنْيَا وَمِلَّا الْآخِرَةِ

آل سیدنا محمد ﷺ پر سلام بخشن جس سے دنیا و آخرت لبریز ہو جائے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا اَمْرَتَنَا اَنْ نُصَلِّ عَلَيْهِ

اُبی سیدنا محمد ﷺ پر رحمت نازل فرمادیں تو نہیں آپ ﷺ پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے

وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا يَنْبَغِي اَنْ يُصَلِّ عَلَيْهِ

اور سیدنا محمد ﷺ پر رحمت نازل فرمادیں رحمت بھیجا آپ ﷺ کی شان کے مناسب ہے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى نَبِيِّكَ الْمُضْطَفِي وَرَسُولِكَ الْمُرْتَضِي

اُبی اپنے برگزیدہ نبی اور پسندیدہ رسول اور پسندیدہ مقرب اور

وَلِيْكَ الْمُجْتَبَى وَأَمِينَكَ عَلَى وَحْيِ السَّمَاءِ

آسمی و حی کے ائمہ (محمد ﷺ) پر رحمت نازل فرمائی

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ أَكْرَمِ الْأَسْلَافِ الْقَائِمِ

اللهم سیدنا محمد ﷺ پر رحمت نازل فرمائی و لذت انبیاء علیہم السلام میں

بِالْعَدْلِ وَالْإِنْصَافِ الْمَنْعُوتُ فِي سُورَةِ الْأَعْرَافِ

بزرگ ترین میں عدل و انصاف پر قائم ہیں جن کی تعریف سورہ اعراف

الْمُتَخَبِّ مِنْ أَصْلَابِ الشَّرَافِ وَالْبُطُونِ الظَّرَافِ

میں مذکور ہوئی ہے شرف اکی پشوں اور پا کیزہ بھکروں سے فتح ہوئے

الْمُصْفَى مِنْ مُّضَاصِ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ

بیش خاندان عبد المطلب بن عبد مناف کا خلاصہ ہیں جن کے ذریعہ

الَّذِي هَدَيْتَ بِهِ مِنَ الْخِلَافِ وَبَيَّنْتَ بِهِ سَبِيلَ

تو نے خلاف سے بچ کر ارشاد دکھایا اور جن کے ذریعہ پر اسمی کا

الْعَفَافِ

طریق ظاہر فرمایا

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَفْضَلِ مَسْئَلَاتِكَ وَإِنِّي

اے اللہ میں تجوہ سے اس درخواست کے ذریعہ موال کرتا ہوں جو تیرے نزدیک

أَسْمَاءِكَ إِلَيْكَ وَأَكْرَمَهَا عَلَيْكَ وَبِمَا مَنَّتَ عَلَيْنَا

فضل ہو اور تیرے اس نام کے واسطے جو تجوہ سب زیادہ پیار اور سب میں زیادہ

بِمُحَمَّدٍ نَّبِيًّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَنْقَذْنَا

محترم ہوا دراس نبوت کے طفیل سے جو تو نے ہمیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد ﷺ پر اپنے

بِهِ مِنَ الْضَّلَالَةِ وَأَمْرَنَا بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ

کے ذریعہ عطا فرمائی کہ ان کے ذریعہ تو نے ہمیں گرامی سے نکلا اور ان پر درود

صَلَاتَنَا عَلَيْهِ دَرَجَةً وَكَفَارَةً وَلُطْفًا وَمَنًا مِنْ

سچیتے کا ہمیں حکم دیا اور ہمارے درود سچیتے کو رفتاد رجات اور کفارہ گناہ اور اپنی

إِعْطَاءِكَ فَآذُنُوكَ تَعْظِيْمًا لِأَمْرِكَ وَاتِّبَاعًا

عطای کے لطف و احسان کا ذریعہ بنایا الہام میں تجویز دعا کرتا ہوں تیرے حکم کی تعمیم

لِوَصِيَّتِكَ وَمُنْتَجَزاً لِمَوْعِدِكَ لِيَمَا يَحِبُّ

اور تیری نصیحت کے اتباع اور تیرے ایقا و وعد کی طلب میں اور

لِغَيْرِنَا سِيَّدِنَا مُحَمَّدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَدَاءِ

اس حق کے ادا کرنے کے لئے جو نبی ﷺ کے لئے ہمارے ذمہ واجب ہے

حَقِّهِ قِبَلَنَا إِذْ أَمَنَّا بِهِ وَصَدَقَنَاهُ وَاتَّبَعْنَا النُّورَ

کیونکہ تم ان پر ایمان لائے اور ان کی تصدیق کی اور اس نور (قرآن)

الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ وَقُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ إِنَّ اللَّهَ

کی اتباع کی ہے جو ان کے ساتھ آتا گیا ہے اور تو نے فرمایا ہے اور بے شک تیرا

وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلِّونَ عَلَى النَّبِيِّ طَيِّبَهَا الَّذِينَ آمَنُوا

فرمان حق ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے صلوٰۃ سچیتے میں (محمد ﷺ) نبی پر

صَلُوٰ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

اے ایمان والوں (تم بھی ان پر خوب) صلوٰۃ و سلام بھیجا کرو

وَأَمْرُتَ الْعِبَادَ بِالصَّلَاةِ عَلٰى نَبِيِّهِمْ فَرِيْضَةٌ

اور تو نے بندوں کو ان کے نبی (محمد ﷺ) پر درود بھیجنے کا حکم بطور فرض فرمایا ہے

إِفْتَرَضْتَهَا عَلَيْهِمْ وَأَمْرَتَهُمْ بِهَا فَنَسَّالَكَ اللَّهُمَّ

اور ان کو اس کا مامور بنایا ہے پس ہم تجویز سے تیرے جلال ذات اور نور عظمت

بِجَلَالِ وَجْهِكَ وَنُورِ عَظَمَتِكَ وَبِمَا أَوْجَبْتَ عَلٰى

کے طفیل اور اس کے طفیل ہوتے تو نے تکیدکاروں کے لئے اپنے ذمہ ضروری بنایا ہے

نَفْسِكَ لِلْمُحْسِنِينَ أَنْ تُصَلِّيَ أَنْتَ وَمَلَائِكَتُكَ عَلٰى

درخواست کرتے ہیں کہ تو اور تیرے فرشتے ہیں نامہ ﷺ پر رحمت نازل فرمा

مُحَمَّدٌ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَنَبِيِّكَ وَصَفِّيِّكَ وَخَيْرِتِكَ

جو تیرے بندے اور تیرے رسول تیرے نبی تیرے بزرگ ہدایہ اور تیری مخلوق

مِنْ خَلْقِكَ أَفْضَلَ مَا صَلَّيْتَ عَلٰى أَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ

میں تیرے منتخب کئے ہوئے ہیں اس سے افضل رحمت جو تو نے اپنی تخلوق میں نازل فرمائی ہو

إِنَّكَ حَمِيلٌ مَّجِيدٌ

بے شک تو سر اور سہم اور شان والا ہے

اللَّهُمَّ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ وَأَكِّرْمَ مَقَامَهُ وَثَقِّلْ مِيزَانَهُ

اللّٰہؑ ان کا درجہ بلند فرماؤ رہا ان کا مقام شاندار بنا اور ان کے ترازوں کا پلڈ اوڑو فی کر

وَأَبْلِجْ حُجَّةً وَأَظْهِرْ مِلَّةً وَأَجْزُلْ ثَوَابَهُ وَأَضْيَ نُورَهُ

اوران کی محنت روشن فرمادا اوران کی شریعت کو غلبہ دے اور ان کا ثواب میش از بیش کراوران کے

وَأَدْمَرْ كَرَامَةً وَالْحَقُّ بِهِ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلَ بَيْتِهِ

نور کو چکا اور ان کی جلالت شان کو دام بخش اور ان کی اولاد اور ان کے اہل بیت کو ان کی

مَا تَقِرْرِبِهِ عَيْنُهُ وَعَظِيمَهُ فِي النَّبِيِّينَ الَّذِينَ خَلُوا قَبْلَهُ

معیت نصیب فرماجس سے ان کی آنکھیں خندی ہوں اور ان کو ان غیوں میں عظمت بخش

اللَّهُمَّ اجْعَلْ مُحَمَّداً أَكْثَرَ النَّبِيِّينَ تَبَعًا

جنوان سے پہلے گزر پھکیں الی سیدنا محمد ﷺ کو سب غیوں سے زیادہ تقدیم والا

وَأَكْثَرُهُمْ وُرَاءَ وَأَفْضَلُهُمْ كَرَامَةً وَنُورًا

بنا اور سب سے زیادہ وزیر والابنا اور بزرگی و فور کے اعتبار سے سب سے افضل بنا اور

وَأَعْلَاهُمْ دَرَجَةً وَأَفْسَحَهُمْ فِي الْجَنَّةِ مَنْزِلًا

سب سے زیادہ بلند درجہ والا اور جنت میں سب سے زیادہ وسیع منزل والا بنا

اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي السَّابِقِينَ غَايَةً وَ فِي الْمُنْتَخَبِينَ

الی سبقت لے جانے والوں میں ان کی غرض و غایت اور انتخاب شدہ جماعت

مَنْزِلَةً وَ فِي الْمُقْرَبِينَ دَارَةً وَ فِي الْمُضْطَفِينَ مَنْزِلَةً

میں ان کا گل اور مقربین میں ان کا گھر اور بزرگیہ حضرات میں ان کا مرتبہ بنا

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ عِنْدَكَ مَنْزِلًا

الی ائمہ اپنے نزدیک مرتبہ کے اعتبار سے بزرگ تر و میں بزرگ ترین بنا

وَأَفْضَلُهُمْ ثَوَابًا وَأَقْرَبُهُمْ مَجْلِسًا وَأَثْبَتُهُمْ مَقَامًا

اور ثواب کے اعتبار سے سب سے افضل اور بھائیں کے اعتبار سے سب سے قریب تر اور سب

وَأَصْوَبُهُمْ كَلَامًا وَأَنْجَحُهُمْ مَسْئَلَةً وَأَفْضَلُهُمْ

سے زیادہ پختہ مقام اور سب سے زیادہ درست کلام والا اور سوال میں سب سے زیادہ کامیاب

لَدِيْكَ نَصِيْبًا وَأَعْظَمُهُمْ فِيمَا عِنْدَكَ رَغْبَةً وَأَنْزِلْهُ

اور تیرے قرب کا حصہ لینے میں سب سے زیادہ افضل اور تیری بارگاہ کی نعمتوں میں سب سے

فِيْ غُرْفَاتِ الْفِرَدَوْسِ مِنَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَىِ الَّتِي

زیادہ رغبت والا بنا اور ان کو جنت الفردوس کے ان بلند درجے جوں کے بالاخانوں میں اتار

لَا دَرَجَةَ فَوْقَهَا

جس سے بالا کوئی درجہ نہ ہو

اللَّهُمَّ اجْعَلْ مُحَمَّدًا أَصْدَقَ قَائِلٍ وَأَنْجَحَ سَائِلٍ

اللہ بن اسید ناجم بن شیخہ یعنی کوڑا اسچا قائل اور نہایت پا مراد مسائل اور پہلا شفاعة تک نہ کردا

وَأَوَّلَ شَافِعٍ وَأَفْضَلَ مُشَفِّعٍ وَشَفِيعَهُ فِيْ أُمَّتِهِ بِشَفَاعَةٍ

اور سب سے افضل مقبول شفاعة اور ان کی امت کے بارے میں ایسی شفاعة قبول فرماء

يَغْبِطُهُ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَالآخِرُونَ وَإِذَا مَيَّزْتَ عِبَادَكَ

جس پر اگلے اور پچھلے رشک کریں اور جب تو اپنے فیصلہ کرن حکم سے اچھے بندوں کو بروں سے

بِفَضْلِ قَضَائِكَ فَاجْعَلْ مُحَمَّدًا فِي الْأَصْدَقِينَ قِيلًا

جد افرمائے تو سید ناجم بن شیخہ یعنی کو اس جماعت میں فرمایا جو قول کے سب سے پچ

وَفِي الْأَحْسَنِيْنَ عَمَلًا وَفِي الْمَهْدِيّيْنَ سَبِيلًا

اور ہبہ اچھے عمل والے اور سب سے زیادہ باریت یا فتوح جماعت میں

اللَّهُمَّ اجْعَلْ نَبِيَّنَا لَنَا فَرَّطاً وَاجْعَلْ حَوْضَةً لَنَا

اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارا بیش رو بینا اور ان کے حوش کو ہمارے لئے اور ہمارے لگلوں

مَوْعِدًا لَا وَلَنا وَآخِرًا

اور ہمچلوں کے لئے اجتماع کی گہجہ بنا

اللَّهُمَّ احْشُرْنَا فِي زُمْرَتِهِ وَاسْتَعْمِلْنَا فِي سُنَّتِهِ

اللی ان کے گروہ میں ہمارا حشر فرماؤ رہمیں ان کی سنت کا عامل بنا اور رہمیں ان کی

وَتَوَفَّنَا عَلَىٰ مِلِتَهِ وَعَرَفْنَا وَجْهَهُ وَاجْعَلْنَا فِي زُمْرَتِهِ

شریعت پر مناصیب فرماؤ رہمیں ان کے روئے مبارک کاشنا سبنا اور رہمیں ان کے گروہ

وَجِزْبِهِ اللَّهُمَّ اجْمَعْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ كَمَا أَمَنَّا بِهِ

اور ان کی جماعت میں شامل کر الہی ہمارے اور ان کے درمیان اتحاد نصیب فرمائیں ان پر ایمان لا کے

وَلَمْ نَرَهُ وَلَا تَفَرَّقُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ حَتَّىٰ تُدْخِلَنَا مُدْخَلَةً

اور ان کو دیکھا نہیں اور ہمارے اور ان کے درمیان جدائی نہذالتا نیا پا تک کہ رہمیں وہاں داخل فرمانا جباں وہ داخل ہوں

وَتُؤْرِدَنَا حَوْضَةً وَتَجْعَلَنَا مِنْ رُّفَقَائِهِ مَعَ الْمُنْعَمِ

اور رہمیں ان کے حوش پر بیٹھنا اور رہمیں ان کے رفقاء میں سے بنادینا ان حضرات کے ساتھ

عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشَّهِدَاءِ

جن پر انبیاء علیہم السلام اور صدیقین اور شہداء اور صاحبوں میں سے

وَالصَّالِحِينَ وَحُسْنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا

انعام ہوا اور یہ لوگ کیا ہی اچھے رفقیں ہیں۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

ہر قسم کی حمد زیبا ہے اللہ رب العالمین کو

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ نُورِ الْهُدَى وَالْقَائِدِ إِلَى

اے اللہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرماد جو بدایت کے نور اور ہر خوبی کے سالار

الْخَيْرِ وَالدَّاعِنِ إِلَى الرُّشْدِ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ وَإِمَامِ

اور صلاح کی طرف بلانے والے ہیں رحمت والے نبی اور پرہیز گاروں کے پیشواء

الْمَتَّقِينَ وَرَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَانِي بَعْدَهُ كَمَا بَلَغَ

اور پروردگار دو جان کے تذکرہ ہیں جن کے بعد کوئی نبی نہیں جیسا کہ انہوں نے تیرا

رِسَالَتَكَ وَنَصْحَ لِعِبَادِكَ وَتَلَا آيَاتِكَ وَأَقَامَ

پیغام پہنچایا اور تیرے بنوں کو فتحت کی اور تیری آئیں پڑھ کر سماں بھیں اور تیری حدود

حُدُودَكَ وَوَفِي بِعْهِدِكَ وَأَنْفَذَ حُكْمَكَ وَأَمَرَ

کو قائم کیا اور تیرے اعبد و بیان پورا کیا اور تیرے حکم جاری کیا اور تیری طاعت کی تاکیدی

بِطَاعَتِكَ وَنَهْيَ عَنْ مَعْصِيَتِكَ وَوَالِي وَلِيَكَ الَّذِي

اور تیری معصیت سے منع کیا اور تیرے اس دوست کو دوست بنا جس کے ساتھ

تُحِبُّ أَنْ تُوَالِيهَ وَعَادِي عَدُوَّكَ الَّذِي تُحِبُّ أَنْ تُعَادِيهَ

دوستی تجھے محبوب ہے اور تیرے اس دشمن سے دشمنی کی جس کے ساتھ دشمنی رکھنے کو تو پسند کرتا ہے

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور سیدنا محمد ﷺ پر اللہ کی رحمتیں ہوں

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى جَسَدِهِ فِي الْأَجْسَادِ وَعَلَى رُوحِهِ فِي

اللّٰہ تمام بدنوں میں سے ان کے بدن پر اور تمام روحوں میں سے ان کی روح پر اور تمام

الاَرْوَاحِ وَعَلَى قَبْرِهِ فِي الْقُبُورِ وَعَلَى مَوْقِفِهِ

قبوں میں سے ان کی قبر مارک پر اور تمام مقامات میں سے ان کے محل قیام پر اور تمام جگہوں

فِي الْمَوَاقِفِ وَعَلَى مَشَهِدِهِ فِي الْمَشَاهِدِ وَعَلَى ذِكْرِهِ

میں سے ان کی جاء تشریف آوری پر اور حس و قلت بھی ان کا ذکر کر کیا جائے ان کے ذکر پر

إِذَا ذِكْرَ صَلْوَةِ مِنَاعِلِي نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

رحمت نازل فرمادی طرف سے درود بمارے نبی پر

اللَّهُمَّ أَبْلُغْهُ مِنَا السَّلَامَ كَمَا ذِكَرَ السَّلَامُ

اہلِ اہل کوہداری طرف سے سلام پہنچا جیسا کہ سلام کا (قرآن میں) ذکر کیا گیا ہے

وَالسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى وَبَرَكَاتُهُ

اور نبی ﷺ پر سلام اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَلَائِكَتِكَ الْمُقْرَبِينَ وَعَلَى

اسے اللہ اپنے مقرب فرشتوں اور اپنے پاک نبیوں (علیہم السلام)

أَنْبِيَاً إِنَّكَ الْمُطَهَّرُونَ وَعَلَى رُسُلِكَ الْمُرْسَلُونَ

پر اور اپنے پیغمبر ہوئے رسولوں (علیہم السلام) پر اور اپنے

وَعَلَى حَمَلَةِ عَرْشِكَ وَعَلَى سَيِّدِنَا جِبْرِيلَ وَسَيِّدِنَا

عش کے اٹھانے والے فرشتوں پر اور سیدنا جبریل علیہ السلام اور سیدنا مکائیل علیہ السلام

مِيكَائِيلَ وَسَيِّدِنَا إِسْرَافِيلَ وَسَيِّدِنَا مَلِكَ الْمَوْتِ

اور سیدنا اسرافیل علیہ السلام اور سیدنا ملک الموت علیہ السلام پر اور

وَسَيِّدِنَا رَضْوانَ خَازِنِ جَنَّتِكَ وَسَيِّدِنَا مَالِكِ خَازِنِ

سیدنا رضوان پر جو تیری جنت کے افسر اعلیٰ ہیں اور سیدنا مالک پر جو دوزخ کے افسر اعلیٰ

جَهَنَّمَ وَصَلَّى عَلَى الْكَرَامِ الْكَاتِبِينَ وَصَلَّى عَلَى أَهْلِ

ہیں رحمت نازل فرماء اعمال لکھنے والے فرشتوں پر رحمت نازل فرماء اور اپنے تمام

طَاعَتِكَ أَجْمَعِينَ مِنْ أَهْلِ السَّيْوَتِ وَالْأَرْضِينَ

فرما بخدا رہوں پر رحمت نازل فرمائی جاؤ سماں اور زمینوں کے رہنے والے ہیں

اللَّهُمَّ اتِ اهْلَ بَيْتِ نَبِيِّكَ أَفْضَلَ مَا أَتَيْتَ أَحَدًا

اللّٰہ اپنے نبی (محمد ﷺ) کے اہل بیت کو بہتر سے بہتر عطا فرمائجو تو نے پیغمبروں کے

مِنْ أَهْلِ بُيُوتِ الْمُرْسَلِينَ وَاجْزِ أَصْحَابِ نَبِيِّكَ

اہل بیت میں سے کسی کو عطا فرمایا اور اپنے نبی (محمد ﷺ) کے صحابہ کو بہتر سے بہتر

أَفْضَلَ مَا جَاءَتِ يَهُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ الْمُرْسَلِينَ

صلی عطا فرمائجو تو نے پیغمبروں کے صحابہ میں سے کسی کو صلی عطا فرمایا

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ

اللّٰہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کی اور مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں

وَالْمُسِلِّمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ وَاغْفِرْ لَنَا

کی مغفرت فرماء، زندگوں کی بھی اور مردوں کی بھی اور عبادی اور ہمارے ان بھائیوں کو

وَلَا خُواِنِا إِلَّا دِينَ سَبَقُونَا بِإِيمَانٍ وَلَا تَجْعَلْ فِي

جو ہم سے پہلے ایمان لائے بخشن دے اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لئے کیند

قُلُوبِنَا غَلَّ لِلذِّيْنَ أَمْنَوْا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

نہ کہاے پروردگار ہمارے بے شک تو شفقت و رحم والا ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ الْهَاشِمِيِّ مُحَمَّدٍ وَعَلَى إِلَهِ

اللَّهِ بَاشِی نبی سیدنا محمد ﷺ پر اور ان کی آل اور ان کے صحابہ پر

وَصَاحِبِهِ وَسَلِّمُ تَسْلِيْمًا

رحمت اور سلام نازل فرمایا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ صَلْوَةً تُرْضِيَكَ

اللَّهِ بَاشِی سیدنا محمد ﷺ پر جو خلق و قات میں سب سے بکتریں اسکی رحمت نازل فرمائی جو تجھے خوش

وَتُرْضِيَهُ وَتُرْضِي بِهَا عَنَّا يَا أَرَحَمَ الرَّاحِمِينَ

کر دے اور انہیں خوش کر دے اور جس کی بدولت تو ہم سے راضی ہو جائے اے ارحم الرحمین

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى إِلَهِ وَصَاحِبِهِ وَسَلِّمُ

اے اللہ نبی سیدنا محمد ﷺ پر اور ان کی آل اور صحابہ پر رحمت نازل فرم اور سلام

تَسْلِيْمًا كَثِيرًا كَثِيرًا مُّبَارَّكًا فِيهِ جَزِيلًا جَمِيلًا

نازل فرمائی رحمت اور سلام جو کثیر ہو پاک صاف ہو برکت ہو افر ہو جمیل ہو

دَائِمًا بِدَوَامِ مُلْكِ اللَّهِ

اور حکومتِ الٰہی کے دوام تک دائمی ہو

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ مِلَّا الْفَضَاءِ وَعَدَّ

اے اللہ سیدنا محمد ﷺ پر اور ان کی آل پر زمین و آسمان کی فضا بھر کر اور آسمان

النُّجُومُ فِي السَّمَاوَاتِ صَلوةً تُوازِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

میں ستاروں کے بقدر رحمت نازل فرمائی رحمت جو آسمانوں اور زمین کے

وَعَدَدَمَا خَلَقْتَ وَمَا أَنْتَ خَالِقُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ

ہم وزن ہوا اور بقدر اس کے جو تو پیدا فرمائیا اور جو پیدا افرمائے گا قیامت کے دن تک

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ

اے اللہ سیدنا محمد ﷺ پر اور آل سیدنا محمد ﷺ پر فرمائی رحمت نازل فرمائی رحمت تو نے

عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا

حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی اور سیدنا محمد ﷺ پر اور آل سیدنا محمد ﷺ پر

بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَلَيِّينَ

پرمیسی برکت نازل فرمائی برکت تو نے دنیا جہاں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور

إِنَّكَ حَمِيلٌ مَجِيدٌ

آل ابراہیم علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی ہے جس تو حمد اور بزرگی کا مستحق ہے

۱ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْغُفُوْرَةَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدِّينِ

اے اللہ میں تجھ سے دین اور دنیا اور آخرت میں

وَالدُّنْيَا وَالآخِرَةٌ

معافی اور عافیت مانگنا ہوں

۲) اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدِّينِ

اے اللہ میں تجھ سے دین اور دنیا اور آخرت میں

وَالدُّنْيَا وَالآخِرَةٌ

معافی اور عافیت مانگنا ہوں

۳) اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدِّينِ

اے اللہ میں تجھ سے دین اور دنیا اور آخرت میں

وَالدُّنْيَا وَالآخِرَةٌ

معافی اور عافیت مانگنا ہوں

۱) اللَّهُمَّ اسْتُرْنَا بِإِسْتِرِكَ الْجَمِيلِ

اے اللہ میں اپنے خوبی والے پرده میں چھپا لے

۲) اللَّهُمَّ اسْتُرْنَا بِإِسْتِرِكَ الْجَمِيلِ

اے اللہ میں اپنے خوبی والے پرده میں چھپا لے

۳) اللَّهُمَّ اسْتُرْنَا بِإِسْتِرِكَ الْجَمِيلِ

اے اللہ میں اپنے خوبی والے پرده میں چھپا لے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّكَ الْعَظِيمِ وَبِحَقِّ نُورِ وَجْهِكَ

اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ظیمک کے واسطے اور تیرے مزرا پر جہے

الْكَرِيمُ وَبِحَقِّ عَرِيشَكَ الْعَظِيمِ وَبِمَا حَمَلَ كُرْسِيُّكَ

کے نور کے طفیل اور تیرے عرشِ عظیم کے حق کا واسطہ دے کر اور ان سب کے طفل جو تیری

مِنْ عَظَمَتِكَ وَجَلَالِكَ وَجَمَالِكَ وَبَهَاءِكَ وَقُدْرَتِكَ

کری نے تیری عظمت تیرے جلال اور تیرے جمال اور تیری خوبی اور تیری قدرت اور

وَسُلْطَانِكَ وَبِحَقِّ أَسْمَاءِكَ الْمَخْزُونَةِ الْمَكْنُونَةِ

تیرے غالب میں سے اٹھا کر رکھا ہے اور تیرے ان تمام ناموں کا واسطہ دے کر جو

الَّتِي لَمْ يَكُنْ لِّعْنَاهَا أَحَدٌ مِّنْ خَلْقِكَ

محفوظ اور پوشیدہ ہیں جس پر تیری مخلوق میں سے کوئی واقف نہیں

اللَّهُمَّ وَأَسْئِلُكَ بِالإِسْمِ الَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَى اللَّيْلِ

اور اے اللہ میں تجوہ سے سوال کرتا ہوں تیرے اس نام کا واسطہ دے کر جو تو

فَأَظْلَمَ وَعَلَى النَّهَارِ فَاسْتَنَارَ وَعَلَى السَّمَوَاتِ

نے رات پر رکھا تو وہ اندر ہیری بیوگی اور دن پر رکھا تو وہ بیوگی اور آسمانوں

فَاسْتَقْلَلَ وَعَلَى الْأَرْضِ فَاسْتَقَرَّ وَعَلَى الْجِبَالِ

پر رکھا تو وہ قائم ہو گئے اور زمین پر رکھا تو وہ بخہرگی اور پہاڑوں پر رکھا تو وہ حکم

فَأَرْسَتَ وَعَلَى الْبِحَارِ وَالْأَوْدِيَةِ فَجَرَتْ وَعَلَى

ہو گئے اور سمندروں اور دریاؤں پر رکھا تو وہ بننے لگے اور

الْعُيُونِ فَنَبَعَتْ وَعَلَى السَّحَابِ فَأَمْطَرَتْ وَأَسْئِلُكَ

چشمیں پر رکھا تو وہ ابل پڑے اور بادلوں پر رکھا تو وہ برنسنے لگے اور میں تھے

اللَّهُمَّ بِالْأَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ فِي جَبَهَةِ سَيِّدِنَا

ان نامول کا واسطہ کے رسول کرتا ہوں جو حضرت اسرافیل علیہ السلام

إِسْرَافِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِالْأَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ فِي

کی پیشانی پر لکھے ہوئے ہیں اور وہ نام جو

جَبَهَةِ سَيِّدِنَا جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَلَى الْمَلَائِكَةِ

حضرت جبریل علیہ السلام کی پیشانی پر لکھے ہوئے ہیں

الْمُقَرَّبِينَ وَأَسْئَلُكَ اللَّهُمَّ بِالْأَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ

اور مقرب فرشتوں پر لکھے ہوئے ہیں اور وہ نام جو

حَوْلَ الْعَرْشِ وَأَسْئَلُكَ بِالْأَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ حَوْلَ

عرش کے چاروں طرف لکھے ہوئے ہیں اور وہ نام

الْكُرْسِيِّ وَأَسْئَلُكَ اللَّهُمَّ بِالْأَسْمِ الْمَكْتُوبِ عَلَى

جو کرسی کے چاروں طرف لکھے ہوئے ہیں اور وہ نام جو زیرین کے

وَرَقِ الزَّيْتُونِ

پتے پر لکھا ہوا ہے

پانچویں منزل بروز جمعہ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّكَ الْعَظِيمِ وَبِحَقِّ نُورِ

اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے عظیم حق کے واسطے سے اور تیرے معزز چہرے

وَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَبِحَقِّ عَرْشِكَ الْعَظِيمِ وَبِمَا حَمَلَ

کے نور کے طفیل اور تیرے عرش عظیم کے حق کا واسطہ دے کر اور ان سب کے طفیل جو تیری

كُرْسِيُّكَ مِنْ عَظَمَتِكَ وَجَلَالِكَ وَجَمَالِكَ وَبَهَاءِكَ

کرسی نے تیرے عظمت تیرے جلال اور تیرے جمال اور تیرے خوبی اور تیرے قدرت اور

وَقُدْرَتِكَ وَسُلْطَانِكَ وَبِحَقِّ أَسْمَاءِكَ الْمَخْزُونَةِ

تیرے غلبہ میں سے اٹھا کر رکھا ہے اور تیرے ان تمام ناموں کا واسطہ دے کر جو

الْمَكْنُونَةُ الَّتِي لَمْ يَطْلَعْ عَلَيْهَا أَحَدٌ مِّنْ خَلْقِكَ

محفوظ اور پوشیدہ ہیں جن پر تیرے مخلوق میں سے کوئی واقف نہیں

اللَّهُمَّ وَأَسْأَلُكَ بِالْإِسْمِ الَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَى اللَّيْلِ

اور اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے اس نام کا واسطہ دے کر جو تو

فَأَظْلَمَ وَعَلَى النَّهَارِ فَاسْتَنَارَ وَعَلَى السَّهُوتِ

نے رات پر رکھا تو وہ انہیں ہو گئی اور دن پر رکھا تو وہ روشن ہو گیا اور آسمانوں

فَاسْتَقْلَثُ وَعَلَى الْأَرْضِ فَاسْتَقْرَثُ وَعَلَى الْجِبَالِ

پر کھاتو وہ قائم ہو گئے اور زمین پر کھاتو وہ بھرگی اور پہاڑوں پر کھاتو وہ

فَأَرْسَتُ وَعَلَى الْبِحَارِ وَالْأَوْدِيَةِ فَجَرَثُ وَعَلَى

محکم ہو گئے اور سمندروں اور دریاؤں پر کھاتو وہ بینے لگئے اور

الْعَيْونِ فَنَبَعَثُ وَعَلَى السَّحَابِ فَامْطَرَثُ

چشوں پر کھاتو وہ ابل پڑے اور بادوں پر کھاتو وہ برسنے لگے

وَأَسْئَلُكَ اللَّهُمَّ بِالْأَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ فِي جَبَّهَةِ

اور اے اللہ میں تجھ سے ان ناموں کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں

سَيِّدِنَا إِسْرَافِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِالْأَسْمَاءِ

جو حضرت اسرافیل علیہ السلام کی بیشانی پر لکھ ہوئے ہیں

الْمَكْتُوبَةِ فِي جَبَّهَةِ سَيِّدِنَا جَبَرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

اور وہ نام جو حضرت جبریل علیہ السلام کی بیشانی پر لکھ ہوئے ہیں

وَعَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَأَسْئَلُكَ اللَّهُمَّ

اور مقرب فرشتوں پر لکھ ہوئے ہیں اور اے اللہ میں تجھ سے ان ناموں کا واسطہ

بِالْأَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ حَوْلَ الْعَرْشِ وَأَسْئَلُكَ اللَّهُمَّ

دے کر سوال کرتا ہوں جو عرش کے چاروں طرف لکھے ہوئے ہیں اور

بِالْأَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ حَوْلَ الْكُرْسِيِّ وَأَسْئَلُكَ اللَّهُمَّ

ان ناموں کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جو کرسی کے چاروں طرف لکھے ہوئے ہیں

بِالْأَسْمَاءِ الْمُكْتُوبِ عَلَى وَرَقِ الزَّيْتُونِ وَأَسْأَلُك

اور ان ناموں کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جو زیتون کے پتے پر لکھا ہوا ہے

اللَّهُمَّ بِالْأَسْمَاءِ الْعِظَامِ الَّتِي سَمِّيَتْ بِهَا نَفْسَكَ

اور میں تجویز سے تیرے ان ناموں کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جو تو نے

مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ وَأَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ

اپنے لئے رکھے چاہے میں ان کو جانتا ہوں یا نہیں جانتا اور اے اللہ میں تجویز سے سوال کرتا ہوں

بِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا أَدْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

بواسطہ ان ناموں کے جن سے تجویز حضرت آدم علیہ السلام نے پکارا تھا

وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ

اور بواسطہ ان ناموں کے جن سے تجویز حضرت نوح علیہ السلام نے پکارا تھا

وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا هُودٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ

اور بواسطہ ان ناموں کے جن سے تجویز حضرت ہود علیہ السلام نے پکارا تھا

وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

اور بواسطہ ان ناموں کے جن سے تجویز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکارا تھا

وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا صَالِحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ

اور بواسطہ ان ناموں کے جن سے تجویز حضرت صالح علیہ السلام نے پکارا تھا

وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا يُونُسٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ

اور بواسطہ ان ناموں کے جن سے تجویز حضرت یونس علیہ السلام نے پکارا تھا

وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا أَيُّوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

اور بواسطہ ان ناموں کے جن سے تجھے حضرت ایوب علیہ السلام نے پکارا تھا

وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا يَعْقُوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

اور بواسطہ ان ناموں کے جن سے تجھے حضرت یعقوب علیہ السلام نے پکارا تھا

وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

اور بواسطہ ان ناموں کے جن سے تجھے حضرت یوسف علیہ السلام نے پکارا تھا

وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ

اور بواسطہ ان ناموں کے جن سے تجھے حضرت موسی علیہ السلام نے پکارا تھا

وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا هَارُونُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

اور بواسطہ ان ناموں کے جن سے تجھے حضرت ہارون علیہ السلام نے پکارا تھا

وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا شُعَيْبٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ

اور بواسطہ ان ناموں کے جن سے تجھے حضرت شعیب علیہ السلام نے پکارا تھا

وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا إِسْمَاعِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

اور بواسطہ ان ناموں کے جن سے تجھے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پکارا تھا

وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا دَاؤُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

اور بواسطہ ان ناموں کے جن سے تجھے حضرت داؤد علیہ السلام نے پکارا تھا

وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا مُلِيَّمًا عَلَيْهِ السَّلَامُ

اور بواسطہ ان ناموں کے جن سے تجھے حضرت ملیمان علیہ السلام نے پکارا تھا

وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا زَكَرِيَاً عَلَيْهِ السَّلَامُ

اور بواسطہ ان ناموں کے جن سے تجھے حضرت زکریا علیہ السلام نے پکارا تھا

وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا يَحْيَى عَلَيْهِ السَّلَامُ

اور بواسطہ ان ناموں کے جن سے تجھے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے پکارا تھا

وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا أَرْمِيَاءُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

اور بواسطہ ان ناموں کے جن سے تجھے حضرت ارمیاء علیہ السلام نے پکارا تھا

وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا شَعِيَاءُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

اور بواسطہ ان ناموں کے جن سے تجھے حضرت شعیاء علیہ السلام نے پکارا تھا

وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا إِلْيَاسُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

اور بواسطہ ان ناموں کے جن سے تجھے حضرت ایلیاس علیہ السلام نے پکارا تھا

وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا الْيَسُوعُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

اور بواسطہ ان ناموں کے جن سے تجھے حضرت یسوع علیہ السلام نے پکارا تھا

وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا ذُو الْكِفْلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

اور بواسطہ ان ناموں کے جن سے تجھے حضرت ذو الکفل علیہ السلام نے پکارا تھا

وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا يُوشُّعَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

اور بواسطہ ان ناموں کے جن سے تجھے حضرت یوشع علیہ السلام نے پکارا تھا

وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ

اور بواسطہ ان ناموں کے جن سے تجھے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہما السلام نے پکارا تھا

وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ

اور بواسطہ ان ناموں کے جن سے تجھے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رکارتا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى جَمِيعِ النَّبِيِّينَ

اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام نبیوں اور پیغمبروں پر رحمت نازل فرمایا

وَالْمُرْسَلِينَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ نَّبِيِّكَ عَدَدَ مَا

کہ تو رحمت بھیجنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان چیزوں کے بقدر جن کو

خَلَقْتَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَكُونَ السَّمَاءُ مَبْنِيَةً وَالْأَرْضُ

تو نے پیدا فرمایا اس سے پہلے کہ آسمان بنایا جائے اور زمین

مَدْحِيَّةً وَالْجِبَالُ مُرْسَأَةً وَالْبَحَارُ مُجْرَأَةً وَالْعُيُونُ

بچھائی جائے اور پہاڑ گاڑے جائیں اور دریا بہائے جائیں اور جنی

مُنْفَجِرَةً وَالْأَنْهَارُ مُنْهَمَرَةً وَالشَّمْسُ مُضْحِيَةً وَالْقَمَرُ

جاری ہوں اور نہریں بیسیں اور سورج نور پھیلائے اور چاند چک دکھائے

مُضِيَّاً وَالْكَوَاكِبُ مُسْتَنِيرَةً كُنْتَ حَيْثُ كُنْتَ لَا يَعْلَمُ

اور ستارے روشن ہوں، تو تھا جہاں بھی تھا، بجزیرے

أَخْدُ حَيْثُ كُنْتَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ

کوئی نہیں جانتا جہاں تو تھا تو تھا سے تیر کوئی شریک نہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ حِلْيَكَ

اللہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے حلم کے بقدر رحمت نازل فرمایا

وَصَلٌ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَدَدِ عِلْمٍكَ وَصَلٌ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَدَدَ

اور سیدنا محمد ﷺ پر اپنے علم اور اپنے کلمات کے بقدر رحمت نازل فرما

كَلِمَاتِكَ وَصَلٌ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَدَدِ نِعْمَتِكَ وَصَلٌ عَلٰى

اور سیدنا محمد ﷺ پر اپنی نعمتوں کے بقدر رحمت نازل فرما اور سیدنا محمد ﷺ پر

مُحَمَّدٍ مِلَّا سَمْوَاتِكَ وَصَلٌ عَلٰى مُحَمَّدٍ مِلَّا أَرْضَكَ

اپنے آسمان کے بھراوے کے بقدر اور سیدنا محمد ﷺ پر اپنی زمین کے بھراوے کے بقدر رحمت نازل فرما

وَصَلٌ عَلٰى مُحَمَّدٍ مِلَّا عَرْشَكَ وَصَلٌ عَلٰى مُحَمَّدٍ زِنَةَ

اور سیدنا محمد ﷺ پر اپنے عرش کے بھراوے کے بقدر رحمت نازل فرما اور سیدنا محمد ﷺ پر اپنے عرش

عَرْشَكَ وَصَلٌ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَاجَرِيِ الْقَلْمَ فِي

کے وزن کے بقدر رحمت نازل فرما اور سیدنا محمد ﷺ پر ان چیزوں کے بقدر رحمت نازل فرما جن کو

أَمْرُ الْكِتَابِ وَصَلٌ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقَتِ فِي سَبْعِ

کلم نے اون محفوظ میں لکھا اور سیدنا محمد ﷺ پر ان چیزوں کے بقدر رحمت نازل فرما جنہیں تو نے

سَمْوَاتِكَ وَصَلٌ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا أَنْتَ خَالِقٌ فِيهِنَّ

اپنے ساتوں آسمانوں میں پیدا کیا اور سیدنا محمد ﷺ پر ان چیزوں کے بقدر

إِلٰي يَوْمِ الْقِيَمَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفٌ مَرَّةٌ

رحمت نازل فرما جنہیں تو پیدا فرمائے گا تایم قیامت ہر دن میں ہزار مرتبہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ قَطْرَةٍ قَطَرْتُ مِنْ

اللہی سیدنا محمد ﷺ پر ہر قطرے کے بقدر رحمت نازل فرما

سَمِوٰتٍكَ إِلٰى أَرْضِكَ مِنْ يَوْمٍ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلٰى

جو تمہرے آسمانوں سے تیری زمین کی طرف ٹکا اس دن سے کہ

يَوْمُ الْقِيَمَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ

تو نے دنیا کو پیدا کیا تاریخ قیامت ہر دن میں ہزار مرتبہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَّ مَنْ يُسْبِحُكَ وَيُقَدِّسُكَ

اہی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ان سب کے بقدر رحمت نازل فرمajoتیری تبیج تبلیل

وَيَهْلِكُ وَيُكْبِرُكَ وَيُعَظِّمُكَ مِنْ يَوْمٍ خَلَقْتَ

اور تکمیر یڑھتے ہیں اور تیری عظمت ظاہر کرتے ہیں اس دن سے کہ

الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ

تو نے دنیا کو پیدا کیا تاریخ قیامت ہر دن میں ہزار مرتبہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَّ أَنْفَاسِهِمْ وَالْفَاطِحِهِمْ

اہلی سیدنا محمد صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖہ وَسَلَّمَ میران کے سانسوں اور الفاظ کے بقدر

وَالْحَاظِهِمْ وَصَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَّ كُلِّ نَسَمَةٍ

رحمت نازل فرما اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر جان کے بقدر رحمت نازل فرما

خَلَقْتَهَا فِيهِمْ مِنْ يَوْمٍ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى

جس کو بھی تو نے ان میں پیدا فرمایا اس دن سے کہ تو نے دنیا کو

يَوْمُ الْقِيَمَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ

پیدا کیا تاریخ قیامت ہر دن میں ہزار مرتبہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ السَّحَابِ الْجَارِيَةِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ السَّحَابِ الْجَارِيَةِ
الَّتِي سَيَّدَنَا مُحَمَّدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا
بِهَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَالْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ الرِّيَاحِ الدَّارِيَةِ مِنْ يَوْمٍ

او سیدنا محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا غبار رُزَانَے والی ہواں کے بغیر رحمت نازل فرما

خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ

اس دن سے کہ تو نے دنیا کو پیدا کیا تاروز قیامت ہر دن میں ہزار مرتبہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا هَبَّتْ عَلَيْهِ الرِّيَاحُ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا هَبَّتْ عَلَيْهِ الرِّيَاحُ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا هَبَّتْ عَلَيْهِ الرِّيَاحُ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا هَبَّتْ عَلَيْهِ الرِّيَاحُ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا هَبَّتْ عَلَيْهِ الرِّيَاحُ

وَحَرَّكْتُهُ مِنَ الْأَغْصَانِ وَالْأَشْجَارِ وَالْأَوْرَاقِ وَالثِّمَارِ

اور ان کو بھایا مثلاً شہنیاں اور درخت اور پتے اور پھل اور تمام وہ چیزیں

وَجَمِيعِ مَا خَلَقْتَ عَلَى أَرْضِكَ وَمَا بَيْنَ سَمَوَاتِكَ مِنْ يَوْمٍ

جن کو تو نے اپنی زمین پر اور اپنے آسمانوں کے ما بین پیدا کیا اس دن سے کہ

خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ

تو نے دنیا کو پیدا فرمایا تاروز قیامت ہر دن میں ہزار مرتبہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ نُجُومِ السَّمَاءِ مِنْ يَوْمٍ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ نُجُومِ السَّمَاءِ مِنْ يَوْمٍ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ نُجُومِ السَّمَاءِ مِنْ يَوْمٍ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ نُجُومِ السَّمَاءِ مِنْ يَوْمٍ

خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ

اس دن سے کہ تو نے دنیا کو پیدا کیا تاروز قیامت ہر دن میں ہزار مرتبہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مِّلَا أَرْضِكَ مِمَّا حَمَلْتَ

اللَّهُ سَيِّدُنَا مُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ پر اتنی رحمت نازل فرماجتنا تیری زمین ان چیزوں سے

وَأَقْلَتْ مِنْ قُدْرَتِكَ

بھرگی ہے جن کو تیری قدرت سے زمین نے اٹھا رکھا ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَّدَ مَا خَلَقْتَ فِي سَبْعَ

اللَّهُ سَيِّدُنَا مُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ پر ان چیزوں کے بقدر رحمت نازل فرماجن کو تو نے

بِخَارِكَ مِمَّا لَا يَعْلَمُ عِلْمَهُ إِلَّا أَنْتَ وَمَا آتَتَ خَالِقَهُ

اپنے سات سمندوں میں پیدا فرمایا ہے جن کا علم بجز تیرے کسی کو نہیں

فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ

نیز جن کو تو ان میں پیدا فرمائے گا تاروز قیامت ہر دن میں ہزار مرتبہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَّدَ مِلْأَ سَبْعِ بِخَارِكَ

اللَّهُ سَيِّدُنَا مُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ پر اپنے سات سمندوں کے بھرا کے بقدر رحمت نازل فرمما

وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ زِنَةَ سَبْعِ بِخَارِكَ مِمَّا حَمَلْتَ

اور سیدنا محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ پر اپنے سات سمندوں کی ان چیزوں کے ہم وزن

وَأَقْلَتْ مِنْ قُدْرَتِكَ

رحمت نازل فرماجن کو انہوں نے تیری قدرت سے اٹھا رکھا ہے

اللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَّدَ أَمْوَاجِ بِخَارِكَ مِنْ يَوْمٍ

اے اللہ سیدنا محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ پر اپنے سمندوں کی موجودوں کے بقدر رحمت نازل فرمما

خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ

اوس دن سے لے کر تو نے دنیا کو پیدا فرمایا قیامت کے دن تک ہر دن میں ہزار مرتبہ

اللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ الرَّمَلِ وَالْحَصَى فِي

اور اے الشدید ناصح سلسلہ نبی پر رحمت نازل فرمادیں کی قراگاہ میں

مُسْتَقِرٌ الْأَرْضِينَ وَسَهْلَهَا وَجِبَالَهَا مِنْ يَوْمٍ

اور اس کے نام و پہاڑی حصوں میں ریت اور نکریوں کے بقدر اس دن سے لے کر جبکہ

خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ

تو نے دنیا کو پیدا فرمایا قیامت کے دن تک ہر دن میں ہزار مرتبہ

اللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ اضْطِرَابِ الْمِيَاهِ

اور الہی سیدنا محمد ﷺ پر شیر میں اور کھاری پانیوں کی روانی کے

الْعَذْبَةِ وَالْمُلْحَةِ مِنْ يَوْمٍ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى

بقدر رحمت نازل فرمادیں دن سے لے کر جبکہ تو نے پیدا کیا دنیا کو

يَوْمِ الْقِيَمَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ

تاروز قیامت ہر دن میں ہزار مرتبہ

وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَهُ عَلَى جَدِيدِيْنِ أَرْضِكَ

اور سیدنا محمد ﷺ پر ان چیزوں کے بقدر رحمت نازل فرماجن کو تو نے

فِي مُسْتَقِرٌ الْأَرْضِينَ شَرْقَهَا وَغَربَهَا سَهْلَهَا

اپنی سطح زمین پر اور زمینوں کی قراگاہوں میں اور مشرق میں اور غرب میں

وَجِبَالِهَا وَأُودِيَتِهَا وَطَرِيقَهَا وَعَامِرِهَا وَغَامِرِهَا إِلَى

اور زم حصول میں اور پہاڑی حصول میں اور وادیوں میں اور استوں میں

سَائِرِ مَا خَلَقَتْهُ عَلَيْهَا وَمَا فِيهَا مِنْ حَصَاءٍ وَمَدَرٍ

اور آبادی میں اور یہ انس میں پیدا کیا غرض جو کچھ بھی تو نے اس کے اوپر اور اس کے اندر

وَحَجَرٌ مِّنْ يَوْمِ خَلْقِ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ

کنکرا اور ڈھیلے اور پتھر میں سے پیدا فرمائے ہیں اس دن سے لے کر جبکہ

فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ

تو نے دنیا کو پیدا کیا قیامت کے دن تک ہر دن میں ہزار مرتبہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَالنَّبِيِّ الْأُكْفَرَ عَدَدَ نَبَاتٍ

اے اللہ سید ناصح علیہ السلام نبی ای پر زمین کی پیداوار کے بقدر رحمت نازل فرما

الْأَرْضُ مِنْ قِبْلَتِهَا وَشَرِقَهَا وَغَرْبَهَا وَسَهْلَهَا

قلدکی جانب اور مشرق و غرب کی جانب اور زم و سخت

وَجِبَالِهَا وَأُودِيَتِهَا وَأَشْجَارِهَا وَثِمَارِهَا وَأُورَاقِهَا

اور اس کی وادیوں اور درختوں اور ان کے پھلوں اور پتوں

وَزُرُوعَهَا وَجَمِيعُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ نَبَاتِهَا

اور کھیتوں کے بقدر اور ان تمام چیزوں کے بقدر جو پیداوار

وَبَرَكَاتِهَا مِنْ يَوْمِ خَلْقِ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ

اور برکتیں زمین سے لگتی ہیں اس دن سے لے کر کہ

فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ

تو نے پیدا فرمایا دنیا کوتار وز قیمت ہر دن میں ہزار مرتبہ

اللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ مِنَ الْجِنِّ

اور اے اللہ سیدنا محمد ﷺ پر جنات اور انسان

وَالْأَنْسِ وَالشَّيَاطِينَ وَمَا أَنْتَ خَالِقُهُ مِنْهُمْ إِلَى

اور شیاطین کے بقدر رحمت نازل فرمات جو تو پیدا فرمایا کا اور جو تو ان میں سے

يَوْمُ الْقِيَمَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ

پیدا فرمائے گا، روز قیامت تک ہر دن میں ہزار مرتبہ

اللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ شَعْرَةٍ فِي أَبْدَانِهِمْ

اور اے اللہ سیدنا محمد ﷺ پر ہر بال کے بقدر رحمت نازل فرمایا

وَفِي وُجُوهِهِمْ وَعَلَى رُؤُوسِهِمْ مُنْذُ خَلْقَتِ الدُّنْيَا

جو ان سب کے بدن اور چہروں اور رسول پر ہیں اس دن سے لے کر

إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ

تو نے دنیا کو پیدا فرمایا ہے تاروز قیمت ہر دن میں ہزار مرتبہ

اللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ خَفَقَانِ الطَّيْرِ

اور اے اللہ سیدنا محمد ﷺ پر رحمت نازل فرمادن کے پھر پھرانے

وَطَيْرَانِ الْجِنِّ وَالشَّيَاطِينَ مِنْ يَوْمٍ خَلَقَتِ الدُّنْيَا

اور جنات و شیاطین کی پرواہ کے بقدر اس دن سے لے کر

إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ

تونے دنیا کو پیدا فرمایا ہے قیامت کے دن تک ہر دن میں ہزار مرتبہ

اللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدُ كُلِّ بَهِيمَةٍ خَلَقْتَهَا عَلَى

اور اے اللہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کل چوتاواں کے بقدر رحمت نازل فرما

جَلِيدُ أَرْضِكَ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ فِي مَشَارِقِ

جن کو تونے ساری روئے زمین میں پیدا فرمایا ہے چھوٹا ہو یا بڑا

الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا مِنْ إِنْسَهَا وَجِنَّهَا مِمَّا لَا يَعْلَمُ

زمین کے مشرقی حصوں میں ہو یا مغربی میں آدمی ہو یا جن

عِلْمَهٗ إِلَّا أَنْتَ مِنْ يَوْمٍ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى

نیز جن کا علم بجز تیرے کی کوئیں اس دن سے لے کر کے

يَوْمُ الْقِيَمَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ

تونے دنیا پیدا فرمائی ہے تاروڑ قیامت ہر دن میں ہزار مرتبہ

اللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدُ خُطَاهُمْ عَلَى وَجْهِهِ

اور اے اللہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر روئے زمین پر ان سب کے

الْأَرْضِ مِنْ يَوْمٍ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ فِي

قدموں کے بقدر رحمت نازل فرما اس دن سے لے کر کے

كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ

تونے دنیا پیدا فرمائی ہے تاروڑ قیامت ہر دن میں ہزار مرتبہ

اللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ يُصْلِّي عَلَيْهِ

اور اے اللہ سیدنا محمد ﷺ پر ان سب کے بقدر رحمت نازل فرماجو آپ ﷺ

وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ لَمْ يُصْلِّي عَلَيْهِ

پر درود بھیجن اور سیدنا محمد ﷺ پر ان سب کے بقدر رحمت نازل فرماجو آپ ﷺ

وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْقَطْرِ وَالْمَظَرِ وَالنَّبَاتِ

پر درود بھیجن اور سیدنا محمد ﷺ پر یوندوں اور بارش اور پیداوار کے بقدر

وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ شَفَعٍ

رحمت نازل فرمادیور سیدنا محمد ﷺ پر رحمت نازل فرمائی جیز کے بقدر

اللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ فِي اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى

اور سیدنا محمد ﷺ پر رات میں رحمت نازل فرمائجکہ وہ چھا جائے

وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ فِي النَّهَارِ إِذَا تَجَلَّ

اور سیدنا محمد ﷺ پر دن میں رحمت نازل فرمائجکہ وہ منور ہو جائے

وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ فِي الْأُخْرَةِ وَالْأُولَى

اور سیدنا محمد ﷺ پر دنیا اور آخرت میں رحمت نازل فرمادی

وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ شَآبَّاً زَكَرِيَّاً

اور سیدنا محمد ﷺ پر رحمت نازل فرماسحال میں کوہ اچھے جوان تھے

وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَهْلًا مَرْضِيَّا

اور سیدنا محمد ﷺ پر رحمت نازل فرماسحال میں کوہ پسندیدہ میانہ سال تھے

وَصَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ مُنْذُ كَانَ فِي الْمَهْبِبِ صَبِيَّاً

اور سیدنا محمد ﷺ پر رحمت نازل فرمایا جس وقت کوہ گہوارہ میں بحالت طفویلت تھے

وَصَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَعْنِي مِنَ الصَّلَاةِ شَيْئٌ

اور سیدنا محمد ﷺ پر رحمت نازل فرمایا ہاں تک کہ رحمت میں سے کوئی چیز باقی نہ رکھے

اللَّهُمَّ وَأَعْطِ مُحَمَّدًا الْمَقَامَ الْحَمْوَدَ الَّذِي وَعَدْتَهُ

اے اللہ سیدنا محمد ﷺ کو مقام حمود عطا فرمایا جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے جن کی شان یہ ہے

الَّذِي إِذَا قَالَ صَدَقَتْهُ وَإِذَا سَأَلَ أَعْطَيْتَهُ

کہ جب انہوں نے کچھ کہا تو ان کو تو نے صحیابنایا اور جب انہوں نے کچھ مانگتا تو تو نے عطا فرمایا

اللَّهُمَّ وَأَعْظِمْ بُرْهَانَهُ وَشَرِفْ بُنْيَانَهُ وَأَبْلِجْ حُجَّتَهُ

اور اے اللہ ان کی دلیل کو بڑائی عطا فرمایا اور ان کی تعمیر کو شرف بخش

وَبَيْنَ فَضِيلَتِهِ

اور ان کی جنت کو واضح کرو اور ان کی افضلیت کو ظاہر فرمایا

اللَّهُمَّ وَتَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ فِي أُمَّتِهِ وَاسْتَعْمِلْنَا بِسُنْنَتِهِ

اور اے اللہ امت کے بارے میں ان کی شفاعت کو قبول فرمانا اور ہمیں ان کی سنت کا عامل بنا

وَتَوَفَّنَا عَلَى مِلَّتِهِ وَاحْشُرْنَا فِي زُمْرَتِهِ وَتَحْتَ لِوَاءِهِ

اور ہمیں ان کی شریعت پر وفات دینا اور ان کی جماعت میں اور ان کے جنہوں کے نیجے

وَاجْعَلْنَا مِنْ رُّفَاقَيْهِ وَأَوْرَدْنَا حَوْضَهُ وَاسْقِنَا بِكَاسِهِ

ہمارا حشر فرمانا اور ہمیں ان کے رفقاء میں سے بنانا اور ہمیں ان کے حوض پر لے آنا اور ان کے

وَانْفَعْنَا بِمَحَبَّتِهِ اللَّهُمَّ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَلَمِينَ

پیارے پانا اور نہیں ان کی محبت سے ہر وہ مندر فرمانا آئیں اے تمام جانوں کے پرو دگار

وَاسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِإِسْمَاءِكَ الَّتِي دَعَوْتُكَ بِهَا أَنْ

اور میں تجوہ سے تیرے ان ناموں کے واسطے سے مانگتا ہوں جن سے میں نے

تُصَلِّيْ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا وَصَفْتُ وَمِمَّا لَأَيْعَلَمُ

تجھے پکارا ہے کہ سیدنا محمد ﷺ پر ان چیزوں کے بقدر حمت نازل فرماجن کا میں

عِلْمَةٌ إِلَّا أَنْتَ وَأَنْ تَرْحَمَنِي وَتَتُوَّبَ عَلَيَّ وَتُعَافِيَنِي

تذکرہ کر چکا ہوں نیز ان چیزوں کے بقدر جن کا تیرے سے عالم کی کوئیں اور یہ کہ مجھ پر

مِنْ جَمِيعِ الْبَلَاءِ وَالْبَلُوَاءِ وَأَنْ تَغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ

شفقت و عنایت فرماؤں مجھ سب بلااؤں اور کلفتوں سے عافیت بخش اور یہ کہ

وَتَرْحَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ

مجھے اور میرے ماں باپ کو بخش دے اور تمام مؤمنین اور مؤمنات اور

وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتَ وَأَنْ

مسلمین و مسلمات پر رحم فرازندوں پر بھی اور مژدوں پر بھی اور یہ کہ

تَغْفِرْ لِعَبْدِكَ فُلَانِ بْنِ فُلَانِ (بیہاں اپنا نام لے) **الْمُنْذِنِ**

ایسے فلاں بن فلاں بندے گناہ گار خطاوار ناتوان کی

الْخَاطِئِ الضَّعِيفِ وَأَنْ تَثُوَّبَ عَلَيْهِ إِنَّكَ غَفُورٌ

مغفرت فرماؤں اس پر عنایت فرمائے شک تو بخشندہ والا

رَّحِيمُ اللَّهُمَّ أَمِينَ يَارَبَّ الْعَلَمِينَ

مہربان ہے آمن اے پروردگار عالم

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مَا حَمَلَ كُرْسِيًّا مِّنْ

اے اللہ میں تجھ سے ان تمام کا واسطہ دے کر مانگتا ہوں جسے تیری کری نے

عَظَمَتِكَ وَقُدْرَتِكَ وَجَلَالِكَ وَبَهَاءِكَ

برداشت کر لیا یعنی تیری عظمت تیری قدرت تیرا جلال تیرا اور

وَسُلْطَانِكَ وَبِحَقِّ اسْمِكَ الْمَخْزُونِ الْمَكْنُونِ الَّذِي

تیرا القدر اور تیرے مخفی و مستور نام کے واسطے جو تو نے اپنے لئے

سَمَيَّتِ بِهِ نَفْسَكَ وَأَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ وَاسْتَأْثَرْتَ بِهِ

تجویز فرمایا اور اسے تو نے اپنی کتاب میں اُتارا یا اس کو غیبی علم میں اپنے پاس

فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تُصْلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ

محفوظ رکھا یہ کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تیرے بندے اور بیشہ بیان پر رحمت نازل فرما

وَرَسُولِكَ وَآسَأَلُكَ بِإِسْمِكَ الَّذِي إِذَا دُعِيَتِ بِهِ

اور میں تجھ سے تیرے اس نام کے واسطے درخواست کرتا ہوں جس کا واسطہ دے کر

أَجَبْتَ وَإِذَا سُئِلْتَ بِهِ أَعْطَيْتَ وَآسَأَلُكَ بِإِسْمِكَ

تجھ سے دعا کی گئی تو تو نے قبول فرمائی اور جب اس کے ذریعہ تجھ سے مانگا تو تو نے عطا فرمایا

الَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَى اللَّيْلِ فَأَظْلَمَ وَعَلَى النَّهَارِ

اور میں تجھ سے تیرے اس نام کا واسطہ دے کر مانگتا ہوں جسے تو نے رات پر رکھا

فَاسْتَنَارَ وَعَلَى السَّمَوَاتِ فَاسْتَقْلَلَتْ وَعَلَى الْأَرْضِ

توہ تارکیک ہو گئی اور دن پر کھا تو روشن ہو گیا اور آسمان پر کھا تو وہ قائم ہو گئے

فَاسْتَقَرَتْ وَعَلَى الْجِبَالِ فَرَسَتْ وَعَلَى الصَّعْبَةِ فَذَلَّتْ

اور زمین پر کھا تو وہ تھبہ گئی اور پہاڑوں پر کھا تو وہ گڑ کے اور رخت زمین پر کھا تو وہ نرم ہو گئی

وَعَلَى مَاءِ السَّمَاءِ فَسَكَبَتْ وَعَلَى السَّحَابِ فَامْطَرَتْ

اور آسمان کے پانی پر کھا تو وہ بنبٹ لے اور بادلوں پر کھا تو وہ برسنے لگے

وَاسْتَلَكَ بِمَا سَالَكَ بِهِ سَيِّدُنَا مُحَمَّدُ نَبِيُّكَ

اور میں ان کے واسطے سے مانگتا ہوں جس کا واسطہ دے کر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نبی نے مانگا تھا

وَاسْتَلَكَ بِمَا سَالَكَ بِهِ سَيِّدُنَا أَدْمُ نَبِيُّكَ وَاسْتَلَكَ

اور تجھ سے ان تمام کا واسطہ دے کر مانگتا ہوں جس کا واسطہ دے کر حضرت آدم علیہ السلام

بِمَا سَالَكَ بِهِ أَنْبِيَاً وَكَ وَرَسُلُكَ وَمَلَائِكَتُكَ

تیرے نبی نے مانگا تھا اور تجھ سے ان تمام کا واسطہ دے کر مانگتا ہوں جس کے واسطے سے

الْمُقَرَّبُونَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ وَاسْتَلَكَ بِمَا

تیرے نبیوں تیرے پیغمبروں اور تیرے مقرب فرشتوں نے تجھ سے مانگا اللہ کی رحمت

سَالَكَ بِهِ أَهْلُ طَاعَتِكَ أَجْمَعِينَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ

بر سے ان سب پر اور میں تجھ سے ان تمام کا واسطہ دے کر مانگتا ہوں جس کے واسطے سے

وَعَلَى أَلِ مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَكُونَ

تیرے تمام فرمایہ داروں نے مانگا یہ کہ تو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر

السَّمَاءُ مَبْنِيَةٌ وَالْأَرْضُ مَطْحَيَةٌ وَالْجَبَالُ مُرْسَأً

رحمت نازل فرماں چیزوں کے بقدر جن کتو نے پیدا فرمایا اس سے قبل کہ آسان بنیں

وَالْعُيُونُ مُنْفَجَرَةٌ وَالْأَنْهَارُ مُنْهَمَرَةٌ وَالشَّمْسُ

اور زمین پچھا اور پہاڑ گریں اور جسم اعلیں اور نہریں بیٹیں اور سورج چکے

مُضْحِيَةٌ وَالْقَمَرُ مُضِيَّاً وَالْكَوَاكِبُ مُنْيِرَةٌ

اور چاند کے او تارے روشن ہوں

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ عَدَدَ عِلْمِكَ

اللّٰہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے علم کے موافق رحمت نازل فرما

وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ عَدَدَ حِلْمِكَ

اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے حلم کے موافق رحمت نازل فرما

وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا أَخْصَأْتُ

اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے بقدر رحمت نازل فرما

اللَّوْحُ الْمَخْفُوظُ مِنْ عِلْمِكَ

جسے لوح محفوظ نے مجھے تیرے علم کے ضبط کر رکھا ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا جَرَى

اللّٰہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے بقدر رحمت نازل فرما

بِهِ الْقَلْمُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ عِنْدَكَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

جسے قلم نے اصل کتاب میں لکھا جو تیرے یاں ہے اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر

وَعَلَىٰ أَلٍ مُحَمَّدٍ مِلَّا سَمْوَاتِكَ وَصَلَّى عَلَىٰ مُحَمَّدٍ

اور آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے آسمان کے بھرا کے بقدر رحمت نازل فرما

وَعَلَىٰ أَلٍ مُحَمَّدٍ مِلَّا أَرْضِكَ وَصَلَّى عَلَىٰ مُحَمَّدٍ

اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی زمین کے بھرا کے بقدر رحمت نازل فرما

وَعَلَىٰ أَلٍ مُحَمَّدٍ مِلَّا مَا أَنْتَ خَالِقُهُ مِنْ يَوْمٍ

اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان چیزوں کے بھرا کے بقدر رحمت نازل فرما

خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ

جنہیں تو پیدا فرمائے گا اس دن سے کہ تو نے پیدا فرمایا دنیا کو قیامت کے دن تک ہر دن میں ہزار مرتبہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَلٍ مُحَمَّدٍ عَدَدَ صُفُوفِ

اللہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتوں کی صفوں

الْمَلَائِكَةَ وَتَسْبِيهِهِمْ وَتَقْدِيسِهِمْ وَتَحْمِيدِهِمْ

اور ان کی تسبیح و تقدیس اور ان کی تحمد و تمجید

وَتَمْجِيدِهِمْ وَتَكْبِيرِهِمْ وَتَهْلِيلِهِمْ مِنْ يَوْمٍ

اور ان کی تکبیر و تہلیل کے بقدر رحمت نازل فرما

خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ

اس دن سے کہ تو نے دنیا کو پیدا کیا قیامت کے دن تک ہر دن میں ہزار مرتبہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَلٍ مُحَمَّدٍ عَدَدَ السَّحَابِ

اللہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے والے بالدوں کے

الْجَارِيَةُ وَالرِّيَاحُ الدَّارِيَةُ مِنْ يَوْمِ خَلْقِ الدُّنْيَا إِلَى

اور اُڑنے والی ہواں کے بغیر رحمت نازل فرمادن سے لے کر

يَوْمُ الْقِيمَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ

تو نے دنیا کو پیدا کیا قیامت کے دن تک ہر دن میں ہزار مرتبہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ قَطْرَةٍ

اللّٰہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر قطرے کے بغیر

تَقْتُلُهُ مِنْ سَمْوَاتِكَ إِلَى أَرْضِكَ وَمَا تَقْتُلُهُ إِلَى يَوْمِ

رحمت نازل فرماجو تیرے آسمانوں سے تیری زمین کی طرف پہلتا ہے

الْقِيمَةُ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ

اور جو آئندہ روز قیامت تک ٹکے گا ہر دن میں ہزار مرتبہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا هَبَّتِ

اللّٰہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہواں کے چلنے کے بغیر

الرِّيَاحُ وَعَدَدَ مَا تَحَرَّكَ الْأَشْجَارُ وَالْأَوْرَاقُ

رحمت نازل فرمادن و دختوں پتوں اور کھنکی کے حرکت کرنے کے بغیر رحمت نازل فرمادن

وَالرُّوْعُ وَجَمِيعُ مَا خَلَقْتِ فِي قَرَارِ الْحِفْظِ مِنْ يَوْمِ

اور ان تمام چیزوں کے بغیر رحمت نازل فرماجن کوتونے پیدا فرمایا محفوظ جگہ میں

خَلَقَتِ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيمَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ

اس دن سے لے کر کوتونے دنیا کو پیدا فرمایا قیامت کے روز تک ہر دن میں ہزار مرتبہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِّ مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْقَطْرِ

البی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یا نی کے قطروں

وَالْمَطْرِ وَالنَّبَاتِ مِنْ يَوْمِ خَلْقَتِ الدُّنْيَا إِلَى

اور بارش اور پیداوار کے بقدر رحمت نازل فرمادن سے کہ

يَوْمُ الْقِيَمَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ

تو نے دنیا کو پیدا فرمایا کوئی قیمت کے دن تک ہر دن میں ہزار مرتبہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِّ مُحَمَّدٍ عَدَدَ النُّجُومِ

البی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان میں موجود

فِي السَّمَاءِ مِنْ يَوْمِ خَلْقَتِ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ فِي

تاروں کے بقدر رحمت نازل فرمادن سے لے کر جبکہ

كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ

تو نے پیدا فرمایا دنیا کو کوئی قیمت کے دن تک ہر دن میں ہزار مرتبہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِّ مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ

البی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان چیزوں کے بقدر

فِي بَحَارِكَ السَّبْعَةِ مِمَّا لَا يَعْلَمُ عِلْمَهُ إِلَّا أَنْتَ

رحمت نازل فرماجن کو تو نے اپنے سات سمندروں میں پیدا فرمایا جن کا علم بجزیرے

وَمَا أَنْتَ خَالِقُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ

کسی کوئی نہیں اور جو لو آئندہ تاروں قیامت پیدا فرمائے گا ہر دن میں ہزار مرتبہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِّ مُحَمَّدٍ عَدَدَ الرَّمَلِ

الْبَشِيرُ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَبِّي

وَالْحَضْرِي فِي مَسَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا

لکھریوں کے بغیر رحمت نازل فرمائیں کے مشرقی اور مغربی حصوں میں

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِّ مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا

الْبَشِيرُ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَبِّي

خَلَقْتَ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَمَا أَنْتَ خَالِقُهُ إِلَّا

جنت اور آدمیوں کے بغیر رحمت نازل فرماجو تو نے پیدا فرمائے

يَوْمُ الْقِيَمَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ

اور جن کو تو تاروز قیامت پیدا فرمائے گا ہر دن میں ہزار مرتبہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِّ مُحَمَّدٍ عَدَدَ

الْبَشِيرُ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَبِّي ان کے سانسوں

أَنْفَاسِهِمْ وَالْفَاظِهِمْ وَالْحَاظِهِمْ مِنْ يَوْمٍ خَلَقْتَ

اور ان کے الفاظ اور ان کی رنگاہوں کے بغیر رحمت نازل فرمایا

الْدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ

اس دن سے کتو نے دنیا کو پیدا فرمایا تاروز قیامت ہر دن میں ہزار مرتبہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِّ مُحَمَّدٍ عَدَدَ طَيَّرَانِ

الْبَشِيرُ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَبِّي جنت اور

الْجِنُّ وَالْمَلَائِكَةِ مِنْ يَوْمِ خَلْقَتِ الدُّنْيَا إِلَى

فرشتوں کی پرواز کے بقدر رحمت نازل فرما

يَوْمُ الْقِيمَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ

اس دن سے کتوں نے پیار فرمایا کوتاروز قیمت ہر دن میں ہزار مرتبہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ عَدَدَ الطَّبِيعَةِ

اللَّهُمَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَادَهُمْ بَرَانِدُونَ

وَالْهُوَآمِرُ وَعَدَدُ الْوُحْشَاتِ وَالْأَكَامِ فِي مَسَارِقِ

اور کیڑوں کے بقدر رحمت نازل فرما اور جنگلی جانوروں اور زمین کے ٹیلوں

الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا

کے بقدر رحمت نازل فرما مشرق و مغرب میں

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ عَدَدَ

اللَّهُمَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَادَهُمْ بَرَانِدُونَ

الْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ

اور مردوں کے بقدر رحمت نازل فرما

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا أَخْلَمَ

اللَّهُمَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَادَهُمْ بَرَانِدُونَ کے

عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَمَا أَشَرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ مِنْ يَوْمٍ

جن پر رات نے تار کی ڈالی اور بقدرون کے جن پر دن نے چک ڈالی

خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ

اس دن سے لے کر کتو نے دنیا کو پیدا فرمایا تاروز قیامت ہر دن میں ہزار مرتبہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ

اللّٰہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرمابقداران کے

يَمْشِيَ عَلَى رِجْلَيْنِ وَمَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ مِّنْ يَوْمٍ

جودو پاؤں پر چلتے ہیں اور جو چار پاؤں پر چلتے ہیں

خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ

اس دن سے لے کر کتو نے پیدا فرمایا دنیا کو تاروز قیامت ہر دن میں ہزار مرتبہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ صَلَّى

اللّٰہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرمابقداران کے

عَلَيْهِ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالْمَلَائِكَةِ مِنْ يَوْمٍ

جنہوں نے جنات و انسان اور فرشتوں میں سے درود بھیجا

خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ

اس دن سے لے کر کتو نے پیدا فرمایا دنیا کو تاروز قیامت ہر دن میں ہزار مرتبہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ

اللّٰہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرمابقداران کے جنہوں نے

يُصَلِّيَ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

آیہ پر درود بھیجا، اللّٰہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرمابقداران کے

عَدَّدَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى

لقد ران کے جنوں نے آپ پر درود بھیجا الہی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم

أَلِ مُحَمَّدٍ كَمَا يَحِبُّ أَنْ يُصَلِّ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

پر رحمت نازل فرمائیے واجب ہے کہ آپ پر درود بھیجا جائے الہی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم

مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ مُحَمَّدٍ كَمَا يَنْبَغِي أَنْ يُصَلِّ عَلَيْهِ

پر اور آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرمائیا لائق ہے کہ آپ پر درود بھیجا جائے

الَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَقُولُ

الہی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرمائے

شَيْئٌ مِّنَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ

یہاں تک کوئی شے آپ پر رحمت میں سے نہ پچے

الَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ فِي الْأَوَّلِينَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ فِي الْآخِرِينَ

الہی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اگلے لوگوں میں اور پچھلے لوگوں میں رحمت نازل فرمائے

الَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ فِي الْمَلَأِ الْأَعْلَى إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

الہی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر طریقہ اعلیٰ میں تاروز جزا رحمت نازل فرمائے

مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

جو چاہا اللہ نے وہ ہو کرہا نہیں قوت سے مگر اللہ برتر با عظمت کی مدد سے

الَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ مُحَمَّدٍ وَأَعْطِهِ

الہی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر رحمت نازل فرمائیں اور ان کو

الْوَسِيلَةُ وَالْفَضِيلَةُ وَالدَّرَجَةُ الرَّفِيعَةُ وَابْعَثُهُ

وسيلة اور فضیلت اور بلند درج عطا فرمادا اور ان کو مقام محمود میں بیچ

مَقَامًا مَحْمُودًا بِالَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ

جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے بے شک تو وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔

اللَّهُمَّ عَظِّمْ شَانَةَ وَبَيْنَ بُرْهَانَةَ وَأَبْلِجْ حُجَّةَ وَبَيْنَ

البی اکی شان بڑھا اور ان کی دلیل واضح فرمادا اور ان کی جست روشن فرمایا

فَضِيلَةَ وَتَقَبَّلَ شَفَاعَةَ فِي أُمَّتِهِ وَاسْتَعْمِلْنَا

اور ان کی فضیلت ظاہر فرمادا اور ان کی امت کے متعلق ان کی شفاعت قبول فرمادا اور ہمیں

إِسْنَتِهِ يَارَبَ الْعَلَمِينَ وَيَارَبَ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

ان کی سنت پر عمل نصیب کر، اے تمام جہاںوں کے پروردگار اور اے رب عرش عظیم کے پروردگار

اللَّهُمَّ يَارَبِ الْحُشْرَنَاتِ فِي زُمْرَتِهِ وَتَحْتَ لِوَاءِهِ وَاسْقِنَا

یا اللہ یا رب ہمارا حشران کے گروہ میں اور ان کے جہنڈے کے نیچے فرما نا اور ہمیں

إِكَاسِهِ وَانْفَعْنَا بِمَحَبَّتِهِ أَمِينَ يَارَبَ الْعَلَمِينَ

ان کے پیالہ سے پلانا اور ہمیں ان کی محبت سے نفع دے اے رب العالمین ہماری دعا قبول فرمایا

اللَّهُمَّ يَارَبِ بَلِّغْهُ عَنَّا أَفْضَلَ السَّلَامِ وَاجْزِهْ عَنَّا

اے اللہ اے رب ان کو ہماری طرف سے بہترین سلام پہنچا اور ان کو ہماری طرف سے بہتر سے بہتر

أَفْضَلَ مَا حَازَيْتِ يِهِ نَبِيًّا عَنْ أُمَّتِهِ يَارَبَ الْعَلَمِينَ

صلح عطا فرمادا جو صلح تونے عطا فرمایا ہو کسی نبی کو اس کی امت کی طرف سے اے رب العالمین۔

اللَّهُمَّ يَا رَبِّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي وَتَتُوبْ عَلَيَّ

اے اللہ اے رب میں تجوہ سے دخواست کرتا ہوں کہ مجھے بخش دے اور مجھ پر حرم فرم ا

وَتَعَافِيْنِي مِنْ جَمِيعِ الْبَلَاءِ وَالْبُلُوَاءِ الْخَارِجِ مِنَ الْأَرْضِ

اور میری توبہ قبول فرم اور مجھ سب بلاوں اور آنٹوں سے جوز میں سے نکلی

وَالنَّازِلِ مِنَ السَّمَاءِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

ہوں یا آسمان سے اتری ہوں عافیت بخش، بے شک تو ہر چیز پر اپنی رحمت سے قادر ہے۔

بِرَحْمَةِكَ وَأَنْ تَغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ

اور بخش دے مؤمن مردوں اور عورتوں کو اور مسلمان مردوں

وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْ

اور عورتوں کو جوان میں زندہ ہوں اور جو انتقال کر گئے ہوں اور اے اللہ راضی ہو جا

أَرْوَاحِ الظَّاهِرَاتِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْ

ان کی پاک بیویوں سے جو کہ مؤمنین کی ماں ہیں اور اے اللہ راضی ہو جا

أَصْحَابِهِ الْأَعْلَامِ أَئِمَّةُ الْهُدَى وَمَصَابِيحُ الدُّنْيَا وَعَنْ

ان کے صحابہ رضوان اللہ علیہم السلام جمیعن سے جو بلند مرتبہ پیشوایان ہدایت اور دنیا کے چراغ ہیں

الثَّابِعِينَ وَتَابِعِيْنَ لَهُمْ يَرْحَسَانِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

اور تابعین سے اور جو تابعین کی روز جزا مک خوبی کے ساتھ اتباع کریں،

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اور ہر تعریف اللہ رب العالمین کے لئے شایاں ہے۔

چھٹی منزل بروز ہفتہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى أَلِّ مُحَمَّدٍ وَأَعْطِهِ

البَشِّيرَةَ الْمُبَشِّرَةَ پر اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر رحمت نازل فرمائی اور ان کو

الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ

وسیله اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرمائی اور ان کو مقام مُحَمَّد میں بھیجیں

مَقَامًا مَّحْمُودًا إِنَّمَا النَّبِيُّ وَعَدَتْهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ

جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے بے شک تو وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔

اللَّهُمَّ عَظِّمْ شَانَةَ وَبَيْنَ بُرْهَانَةَ وَأَبْلِجْ حُجَّتَةَ وَبَيْنَ

البَشِّیرَةَ وَعَذْلَةَ فرمایا کی دلیل واضح فرمائی اور ان کی جنت روشن فرمایا

فَضِيلَةَ وَتَقَبَّلْ شَفَاعَةَ فِي أُمَّتِهِ وَاسْتَعْمِلْنَا

اور ان کی فضیلت ظاہر فرمائی اور ان کی امت کے متعلق ان کی شفاعت بیوں فرمائیں

بِسُنْنَتِهِ يَارَبِ الْعَلَمِينَ وَيَارَبِ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

ان کی سنت پر عمل نصیب کر، اے تمام جہانوں کے پروردگار اور اے رب عرش عظیم کے پروردگار۔

اللَّهُمَّ يَارَبِ الْحُشْرَنَاتِ فِي زُمَرَتِهِ وَتَحْتَ لِوَاءِهِ وَاسْقِنَا

یا اللہ یارب ہمارا حشران کے گروہ میں اور ان کے جھنڈے کے نیچے فرمانا اور ہمیں

بِكَاسِهِ وَانْفَعَنَا بِمَحَبَّتِهِ أَمِينٌ يَارَبَّ الْعُلَمَيْنَ

ان کے پیالہ سے پانا اور ہمیں ان کی محبت سے فتح دے اے رب العالمین ہماری دعا قبول فرماء۔

اللَّهُمَّ يَارَبِّ بَلِغْهُ عَنَّا أَفْضَلَ السَّلَامِ وَاجْزِهْ عَنَّا

اے اللہ اے رب ان کو ہماری طرف سے بہترین سلام پہنچا اور ان کو ہماری طرف سے بہتر سے بہتر

أَفْضَلَ مَا جَازَيْتَ بِهِ نَبِيًّا عَنْ أُمَّتِهِ يَارَبَّ الْعُلَمَيْنَ

صلہ عطا فرما جو صلہ تو نے عطا فرمایا ہو کسی نبی کو اس کی امت کی طرف سے اے رب العالمین۔

اللَّهُمَّ يَارَبِّ إِنِّي أَسْئُلُكَ أَنْ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي

اے اللہ اے رب میں تجوہ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے بخش دے اور مجھ پر حرم فرماء

وَتَتُوبَ عَلَىٰ وَتُعَافِيَنِي مِنْ جَمِيعِ الْبَلَاءِ وَالْبُلُوَاءِ

اور میری توبہ قبول فرماؤ رمحے سب بلااؤں اور آثتوں سے جوز میں سے نکلی

الْخَارِجُ مِنَ الْأَرْضِ وَالنَّازِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِنَّكَ عَلَىٰ

ہوں یا آسمان سے اُتری ہوں عافیت بخش، بے شک تو ہر چیز پر اپنی رحمت

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ بِرَحْمَتِكَ وَأَنْ تَغْفِرَ لِلْمُؤْمِنِينَ

سے قادر ہے۔ اور بخش دے مؤمن مردوں اور عورتوں کو اور مسلمان مردوں

وَالْمُؤْمَنَاتِ وَالْمُسِلِيمَاتِ وَالْمُسِلِيمَاتِ الْأَحْيَاءِ

اور عورتوں کو جوان میں زندہ ہوں اور جو انتقال کر گئے ہوں

مِنْهُمْ وَالْأَمَوَاتِ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْ أَزْوَاجِهِ

اور اے اللہ ان کی پاک بیسوں سے جو کہ مؤمنین کی ماں ہیں ہیں راضی ہو جا

الظَّاهِرَاتِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْ

اور اے اللدان کے صحابہ رضوان اللہ علیہم آمين سے راضی ہو جا

أَصْحَابِ الْأَعْلَامِ أَئِمَّةُ الْهُدَى وَمَصَابِيحُ الدُّنْيَا

جو بلند مرتبہ پیشوایان ہدایت اور دنیا کے چانگ ہیں

وَعَنِ التَّابَاعِينَ وَتَابِعِ التَّابَاعِينَ لَهُمْ يَأْخُسَانٌ إِلَى

اور تاباعین سے اور جوتا بعین کی روز جزا تک خوبی کے ساتھ اتباع کریں،

يَوْمِ الدِّينِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اور ہر تعریف اللہ رب العالمین کے لئے شایان ہے۔

اللَّهُمَّ رَبَّ الْأَرْوَاحِ الْعَالَمِيَّةِ وَالْأَجْسَادِ الْبَالِيَّةِ

اے اللدانے روحوں اور یوسیدہ ہو جانے والے جسموں کے پروردگار میں تجھے

أَسْئِلُكَ بِطَاعَةَ الْأَرْوَاحِ الرَّاجِعَةِ إِلَى أَجْسَادِهَا

درخواست کرتا ہوں بواسطہ روحوں کی اطاعت کے جوائیے جسموں کی طرف چلی گئیں

وَبِطَاعَةَ الْأَجْسَادِ الْمُلْتَعِمَةِ يُعْرُوْقِهَا وَبِكَلِمَاتِكَ

اور بواسطہ جسموں کی اطاعت کے جو اپنے رگوں سے جامیں اور بوسیلہ تیرے کلمات کے

النَّافِذَةِ فِيهِمْ وَأَخْنِاكَ الْحَقَّ مِنْهُمْ وَالْخَلَائقُ بَيْنَ

جو ان میں جاری ہوئے اور بوسیلہ تیرے اپنا حق وصول کرنے کے ان سے اس حال میں کثفوقات

يَكُيْكَ يَنْتَظِرُونَ فَصَلَ قَضَاءِكَ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَكَ

تیرے حضور تیرے فیصلہ کن حکم کا انتظار دیکھ رہی ہو گی اور تیری رحمت کی امید کر رہی ہوں گی

وَيَخَافُونَ عِقَابَكَ أَنْ تَجْعَلَ النُّورَ فِي بَصَرِّي وَذُكْرَكَ

اور تیرے غذاب سے ڈر رہی ہوں گی، اس کی کتو میری آنکھ میں روشنی کر دے اور پناہ ذکر

بِاللَّهِ وَالنَّهَارِ عَلَى لِسَانِي وَعَمَلًا صَالِحًا فَأَرْزُقُنِي

شب دروز میری زبان پر جاری کر دے اور مجھے نیک عمل فصیب فرم۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ

اے اللہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرمائی تھی

وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ

اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت اُتار جسی سیدنا ابراہیم پر برکت اُتاری تھی۔

اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اے اللہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر اپنی رحمتیں کر

أَلِ مُحَمَّدٍ كَمَا جَعَلْتَهَا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى أَلِ

جیسی تو نے سیدنا ابراہیم پر اور سیدنا ابراہیم کی اولاد پر کی تھیں بیٹک توہی حمد و بزرگی

إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى

والا ہے اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر برکت نازل فرم۔

أَلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى أَلِ

جیسی سیدنا ابراہیم پر اور سیدنا ابراہیم کی اولاد پر برکت نازل فرمائی تھی

إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ

بیٹک توہی مُسْتَحْقِح حمد و بزرگی ہے۔

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَصَلِّ عَلَى

اللّٰہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرماج تیرے بندے اور رسول ہیں اور سب مؤمنین مردوں

الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ

اور عورتوں اور سب مسلمان مرداوں عورتوں پر رحمت نازل فرماء۔

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى أَلِهٖ عَدَدَمَا أَحَاطَ

اللّٰہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی اولاد پر رحمت نازل فرمان چیزوں کے شمار کے بقدر جن کو

بِهِ عِلْمٌكَ وَأَخْصَاهُ كِتَابُكَ وَشَهَدَتْ بِهِ مَلَائِكَتُكَ

تیراعم حیط ہے اور جن کو تیری کتاب نے تغفوظ کر کر کھا ہے اور جن کی شہادت تیرے فرشتوں نے

صَلُوةً دَائِمَةً تُدُومُ بِدَوَامِ مُلْكِ اللَّهِ

دی ہے اسکی دائیٰ رحمت جو ہمیشہ رہے حکومت الہی کی بیشگی کے ساتھ۔

اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمَيْكَ الْعِظَامِ مَا عَلِمْتُ مِنْهَا

اللّٰہ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں تیرے ان باعظت ناموں کے واسطے جن کو میں جانتا

وَمَا لَمْ أَعْلَمُ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي سَمِّيَتْ بِهَا نَفْسَكَ

ہوں اور جن کوئیں جانتا اور بوسیلہ ان ناموں کے جو تو نے اپنی ذات کے رکھے ہیں

مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمُ أَنْ تُصْلِّي عَلٰى سَيِّدِنَا

جن کو میں جانتا ہوں اور جن کوئیں جانتا، یہ کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما

مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ مِنْ

جو تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں ان چیزوں کے بقدر جن کو تو پیدا فرم اچکا تھا

قَبْلِ أَنْ تَكُونَ السَّمَاوَاتِ مَبْنِيَةً وَالْأَرْضُ مَدْحِيَةً

اس سے پہلے کہ آسمان بنایا جائے اور زمین بچھائی جائے

وَالْعِجَابُ مُرْسَأَةً وَالْعَيْوُنُ مُنْفَجِرَةً وَالْأَنْهَارُ مُنْهَمَرَةً

اور پہاڑ کاڑے جائیں اور خشکے جاری ہوں اور نہریں بکیں

وَالشَّمْسُ مُشْرِقَةً وَالْقَمَرُ مُضِيًعاً وَالْكَوَاكِبُ

اور سورج پہنچے اور چاند کے اور تارے روشن ہوں

مُسْتَنِيرَةً وَالْبِحَارُ مَجْرِيَةً وَالْأَشْجَارُ مُثْمِرَةً

اور دریا چلیں اور درخت چھیلیں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ عِلْمِكَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اللّٰہی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے علم کے بقدر رحمت نازل فرم۔ اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر

عَدَدَ حِلْمِكَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ كَلِمَاتِكَ وَصَلِّ

اپنے حلم کے بقدر رحمت نازل فرم۔ اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے کلمات کے بقدر رحمت نازل فرم۔

عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ نِعَمَتِكَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ

اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی نعمت کے بقدر رحمت نازل فرم۔ اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر

فَضْلِكَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ جُودِكَ وَصَلِّ عَلَى

اپنے فضل کے بقدر رحمت نازل فرم۔ اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی مخاوت کے بقدر رحمت نازل فرم۔

مُحَمَّدٍ عَدَدَ سَمْوَتِكَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ أَرْضِكَ

اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے آسانوں کے بقدر رحمت نازل فرم۔ اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی زمین

وَصَلٌ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَدَدٌ مَا خَلَقْتَ فِي سَبْعَ سَمَوٰتٍكَ

کے بقدر رحمت نازل فرما اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان فرشتوں کے بقدر رحمت نازل فرمائجئ

مِنْ مَلَائِكَتِكَ وَصَلٌ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَدَدٌ مَا خَلَقْتَ فِي

تونے اپنے ساتوں آسمانوں میں پیدا فرمایا ہے اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرمابقدر

أَرْضَكَ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْوَحْشِ

آن کے جتوںے اپنی زمین میں پیدا فرمایا ہے جنات اور انسان اور آن کے سوا جانور اور پرندو غیرہ

وَالظَّاهِرِ وَغَيْرِهِمَا وَصَلٌ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَدَدٌ مَا جَرَى بِهِ

اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرمابقدر ان چیزوں کے جن کے متعلق تیرے علم غیب میں قلم چلا

الْقَلْمَنْ فِي عِلْمٍ غَيْبِكَ وَمَا يَجْرِيٌ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ

اور جن کے متعلق روز قیامت تک قلم چلے گا اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر

وَصَلٌ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْقَطْرِ وَالْمَظْرِ وَصَلٌ عَلٰى

ہارش کے قطروں کے بقدر رحمت نازل فرما اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرمابقدر آن کے

مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ يَحْمِدُكَ وَيَشْكُرُكَ وَيُهَلِّكُ

جو تیری حمد کریں اور تیرا شکر کریں اور لا الہ الا اللہ کہیں اور تیری بڑائی ظاہر کریں

وَيُمَجِّدُكَ وَيَشْهُدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ وَصَلٌ عَلٰى مُحَمَّدٍ

اور گواہی دیں کہ مجھ ک تو ہی اللہ ہے۔ اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرمابقدر اس کے

عَدَدَ مَا صَلَّيْتَ عَلَيْهِ أَنْتَ وَمَلَائِكَتُكَ وَصَلٌ عَلٰى

کہ جتنی تو نے اور تیرے فرشتوں نے ان پر صلوٰۃ پیشی اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرمائی

مُحَمَّدٌ عَدَدَ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ مِنْ خَلْقِكَ وَصَلَّى عَلَى

بقدران کے جنہوں نے ان پر تیری مخلوق میں سے درود پڑھا اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت

مُحَمَّدٌ عَدَدَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ مِنْ خَلْقِكَ وَصَلَّى عَلَى

نازل فرماد بقدران کے جنہوں نے ان پر تیری مخلوق میں سے درود نہیں پڑھا۔

مُحَمَّدٌ عَدَدُ الْجِبَالِ وَالرِّمَالِ وَالْحَضْرِ وَصَلَّى عَلَى

اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر اڑاؤں اور رکریزوں کے بقدرت رحمت نازل فرماد۔

مُحَمَّدٌ عَدَدُ الشَّجَرِ وَأَوْرَاقِهَا وَالْمَدَرِ وَأَثْقَالِهَا وَصَلَّى

اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درختوں اور ان کے پتوں کے اور ڈھیلوں اور ان کے بوچھے کے بقدرت

عَلَى مُحَمَّدٌ عَدَدُ كُلِّ سَنَةٍ وَمَا تَخْلُقُ فِيهَا وَمَا يَمْوُتُ

رحمت نازل فرماد اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر سال کے بقدرت اور ان سب کے بقدرت جو تو سال میں پیدا

فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيمَةِ وَصَلَّى عَلَى مُحَمَّدٌ عَدَدَ مَا تَخْلُقُ

فرمائے گا اور جو اس میں مریں گے رحمت نازل فرماد اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان سب کے بقدرت رحمت

كُلَّ يَوْمٍ وَمَا يَمْوُتُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيمَةِ

نازل فرماد جو روز اسہ پیدا ہوں اور جو روز ان میں تارو ز قیامت

اللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ السَّحَابِ الْجَارِيَةِ مَا يَبِينَ

اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بقدرت بادلوں جو آسمان و زمین کے درمیان چلتے ہیں اور جتنی مقداری اپنی برستاتے ہیں

السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا تَمْطِرُ مِنَ الْبَيَاضِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ

رحمت نازل فرماد اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا اوس کے بقدرت جو زمین کے مشرقوں اور مغربوں میں اور زمین

الرِّيَاحُ الْمُسَخَّرَاتِ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا

کے اندر اور اس کے جوپ میں مسخر ہیں رحمت نازل فرماؤ اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر

وَجَوْفَهَا وَقِبْلَتِهَا وَصَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدُ نُجُومِ السَّمَاءِ

آسمان کے تاروں کے بقدر رحمت نازل فرماؤ اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان

وَصَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدُ مَا خَلَقَتْ فِي بِحَارَكَ مِنْ

چھلیوں اور جانوروں اور پانی اور ریت وغیرہ کے بقدر

الْعِيَّثَانِ وَالدَّوَابِ وَالْمِيَاهِ وَالرِّمَالِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

رحمت نازل فرماجو تو نے اپنے دریاؤں میں پیدا فرمائی ہیں۔

وَصَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ النَّبَاتِ وَالْحَطْبِ

اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پیداوار زمین اور سگر یزوں کے بقدر رحمت نازل فرماؤ۔

وَصَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ النَّمَلِ

اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جیبٹیوں کے بقدر رحمت نازل فرماؤ۔

وَصَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْمِيَاهِ الْعَذْبَةِ وَصَلَّى عَلَى

اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر شیریں پانیوں کے بقدر رحمت نازل فرماؤ اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم

مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْمِيَاهِ الْمِلْحَةِ وَصَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ

پکھاری پانیوں کے بقدر رحمت نازل فرماؤ اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی ثبوت کے

نَعْمَتِنَا عَلَى جَمِيعِ خَلْقِكَ وَصَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ

بقدر رحمت نازل فرماجو تو نے اپنی سب مخلوق پر کیں اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرماؤ۔

نَقْمَتِكَ وَعَذَابُكَ عَلَى مَنْ كَفَرَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر کرنے والوں پر اپنے عتاب اور عذاب کے بقدر

وَصَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا دَامَتِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ

اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرماجب تک مخلوق جنت میں رہے اور

وَصَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا دَامَتِ الْخَلَائِقُ فِي الْجَنَّةِ

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرماجب تک مخلوق جنت میں رہے۔

وَصَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا دَامَتِ الْخَلَائِقُ فِي النَّارِ

اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرماجب تک مخلوق دوزخ میں رہے اور

وَصَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَى قَدْرِ مَا تُحِبُّهُ وَتَرْضَاهُ

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرماجب مقدار تو پسند فرمائے اور تیری مرضی ہو

وَصَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَى قَدْرِ مَا يُحِبُّكَ وَيَرْضَاكَ

اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرمایکی مقدار جو تھے خوش کرے اور

وَصَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ أَبَدَ الْأَبِدِينَ وَأَنْزِلَهُ الْمُنْزَلَ الْمُقَرَّبَ

راضی کرے اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ ہمیشہ رحمت نازل فرمایا

عِنْدَكَ وَأَعْطِهِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّفَاعَةَ

ان کو اس مقام میں اتار جو تیرے نزدیک مقرب ہو اور ان کو وسیلہ اور فضیلت اور

وَالدَّرَجَةُ الرَّفِيعَةُ وَابْعَثُهُ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ الَّذِي وَعَدَتْهُ

شفاعت اور بلند درج عطا فرمایا اور ان کو اس مقام محمود میں پہنچا جس کا تونے

إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ

ان سے وعدہ فرمایا ہے پیشک تو وعدہ کے خلاف نہیں کیا کرتا

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِإِنَّكَ مَالِكُ الْكَوْنِ وَسَيِّدُ الْمُوْلَى

اے اللہ میں اس بناء پر تجوہ سے ماگلتا ہوں کہ تو میرا مالک اور میرا آقا اور میرا اموی اور میرا

وَثَقِّنِي وَرَجَاءِنِي أَسْأَلُكَ بِحُرْمَةِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ

بھروسہ اور میری امید ہے میں تجھے ماہ حرام و شہر حرم اور مشعر الحرام اور

وَالْمَلَىءُ الْحَرَامِ وَالْمَشْعُرُ الْحَرَامِ وَقَبْرِ نَبِيِّكَ عَلَيْهِ

تیرے نبی علیہ السلام کی قبر کی حرمت کا واسطہ دے کر مانگتا ہوں کہ

السَّلَامُ أَنْ تَهَبْ لِيٰ مِنَ الْخَيْرِ مَا لَا يَعْلَمُ عِلْمَهُ إِلَّا

مجھے وہ خوبی عطا فرماجس کوتیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا

أَنْتَ وَتَصْرِيفُ عَنِّيٍّ مِنَ السُّوءِ مَا لَا يَعْلَمُ عِلْمَهُ إِلَّا أَنْتَ

مجھے سے وہ برائی دو کر دے جسے تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا

اللَّهُمَّ يَا مَنْ وَهَبَ لِسَيِّدِنَا أَدَمَ سَيِّدَنَا شِيْعَةَ

اے اللہ اے وہ ذات جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت شیعہ علیہ السلام

وَلِسَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ سَيِّدِنَا إِسْمَاعِيلَ وَسَيِّدِنَا إِسْحَاقَ

اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام عطا کئے

وَرَدَّ سَيِّدَنَا يُوسُفَ عَلَى سَيِّدَنَا يَعْقُوبَ

اور حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس واپس لائے

وَيَا مَنْ كَشَفَ الْبَلَاءَ عَنْ سَيِّدِنَا أَيُّوبَ وَيَا مَنْ رَدَّ

اور اے وہ ذات جس نے حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف رفع کی اور اے وہ ذات

سَيِّدِنَا مُوسَى إِلَى أُمِّهِ وَيَا زَائِدَ سَيِّدِنَا الْخَضِيرِ فِي عِلْمِهِ

جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کے پاس لوٹا یا اور اے حضرت خضر علیہ السلام کو اندھلہ

وَيَا مَنْ وَهَبَ لِسَيِّدِنَا دَاؤِدَ سَيِّدِنَا سُلَيْمَانَ وَلِسَيِّدِنَا

دینے والے اور اے حضرت داؤد علیہ السلام کو حضرت سليمان علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام کو

زَكْرِيَا سَيِّدِنَا يَحْيَى وَلِسَيِّدِتِنَا مَرْيَمَ سَيِّدِنَا عِيسَى

حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمانے والے

وَيَا حَافِظَ ابْنَةَ سَيِّدِنَا شُعَيْبٍ أَسْئِلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى

اور اے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے گھبیان میں تجوہ سے سوال کرتا ہوں کہ سیدنا محمد ﷺ کی ایسا

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٌ وَعَلَى جَمِيعِ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ

پا اور تم منبیوں اور رسولوں پر رحمت نازل فرم۔

وَيَا مَنْ وَهَبَ لِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اور اے وہ ذات جس نے سیدنا محمد ﷺ کو مرتبہ شفاعت اور بلند درجہ

الشَّفَاعَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي وَتَسْتُرَ لِي

عطافر ما یامیرے گناہ بخش دے اور میرے سارے عیوب ڈھانپ لے اور مجھے

عُيُونِي كُلَّهَا وَتُجِيرَنِي مِنَ النَّارِ وَتُؤْجِبَ لِي رِضْوَانَكَ

دوخنے سے پناہ دے اور میرے لئے اپنی خوشنودی، اپنی امان، اپنی بخشش

وَآمَانَكَ وَغُفرَانَكَ وَاحْسَانَكَ وَتُمَتَّعَنِي فِي جَنَّتِكَ مَعَ

اور اپنا احسان واجب قرار دے اور مجھے اپنی جنت میں ان کے ساتھ

الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ

بہرہ مندر فرمابجن پر تو نے انعام فرمایا ہے نبیوں اور صدیقین

وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَئٍ قَدِيرٌ

اور شہداء اور صالحین میں سے بیکث تو ہر چیز پر قادر ہے

وَصَلَى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ عَدَدًا أَرْعَجَتِ الرِّيَاخَ

اور اللہ کی رحمت ہو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی اولاد پر جب تک ہوائیں با ولوں کو

سَحَابًا رُّكَامًا وَذَاقَ كُلُّ ذِي رُوْحٍ حِمَامًا وَأَوْصِلِ

اخھاتی رہیں اور ہر ذی روح موت کا ذائقہ چھتا رہے اور سلامتی والوں کو

السَّلَامُ لِأَهْلِ السَّلَامِ فِي دَارِ السَّلَامِ تَحِيَّةً وَسَلَامًا

دارالسلام میں سلام پہنچا بدلیے اور سلام بنائیں

۱ اللَّهُمَّ أَفْرِدْنِي لِمَا خَلَقْتَنِي لَهُ وَلَا تُشْغِلْنِي بِمَا

اے اللہ مجھے صرف اسی کام میں لگا جس کے لئے تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کا تو

تَكَفَّلْتُ لِي بِهِ وَلَا تَحْرِمْنِي وَأَنَا آسْئَلُكَ وَلَا تُعْذِّبْنِي

ضامن بن چکا ہے اس میں مشغول نہ کرو اور مجھے محروم نہ فرم جگہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں

وَأَنَا أَسْتَغْفِرُكَ

اور مجھے عذاب نہ دے جگہ میں تجھ سے مغفرت چاہ رہا ہوں۔

۲ اللَّهُمَّ أَفْرِدْنِي لِمَا خَلَقْتَنِي لَهُ وَلَا تُشْغِلْنِي بِمَا

اے اللہ مجھے صرف اسی کام میں لا جس کے لئے تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کا تو

تَكَفَّلْتَ لِيْ بِهِ وَلَا تَحْرِمْنِي وَأَنَا آسْئَلُكَ وَلَا تُعَذِّبْنِي

ضامن بن چکا ہے اس میں مشغول نہ کرو اور مجھے محروم نہ فرماجکہ میں مجھ سے مانگ رہا ہوں

وَأَنَا آسْتَغْفِرُكَ

اور مجھے عذاب نہ دے جبکہ میں تجھ سے مغفرت چاہ رہا ہوں۔

۳ اللَّهُمَّ أَفْرِدْنِي لِمَا خَلَقْتَنِي لَهُ وَلَا تُشْغِلْنِي بِمَا

اے اللہ مجھے صرف اسی کام میں لا جس کے لئے تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کا تو

تَكَفَّلْتَ لِيْ بِهِ وَلَا تَحْرِمْنِي وَأَنَا آسْئَلُكَ وَلَا تُعَذِّبْنِي

ضامن بن چکا ہے اس میں مشغول نہ کرو اور مجھے محروم نہ فرماجکہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں

وَأَنَا آسْتَغْفِرُكَ

اور مجھے عذاب نہ دے جبکہ میں تجھ سے مغفرت چاہ رہا ہوں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِهٖ وَسَلِّمٍ

اے اللہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر رحمت نازل فرمادی اور سلامتی بخیج

۴ اللَّهُمَّ إِنِّي آسْئَلُكَ وَاتَّوَجَّهُ إِلَيْكَ بِحُبِّكَ

اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے حبیب کے دلیل سے

الْمُضَطَّفُ عِنْدَكَ يَا حَبِيبَنَا يَا سَيِّدَنَا مُحَمَّدُ

جو کہ تیرے نزدیک برگزیدہ ہے اے ہمارے حبیب اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم

إِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَى رَبِّكَ فَاسْفَعْ لَنَا عِنْدَ الْمَوْلَى الْعَظِيمِ

بہم آپ کو آپ کے رب کے حضور و سیلہ بناتے ہیں تو آپ عظمت والے مولیٰ کی بارگاہ میں

يَا نِعَمَ الرَّسُولُ الظَّاهِرُ

ہماری شفارش فرمادیجئے، اے اچھے رسول یاک

اللَّهُمَّ شَفِعْ فِيْنَا بِجَاهِهِ عِنْدَكَ

اللّٰہ ان کی سفارش ہمارے حق میں قبول فرمائیجئے ان کی جاہ کی حرمت کے بغیر جوتیرے نزدیک ہے

۱ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَاتَّوَجَّهُ إِلَيْكَ بِحَبِّيْبِكَ

اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے حبیب کے سیلہ سے

الْمُصَطَّلِفُ عِنْدَكَ يَا حَبِيْبَنَا يَا سَيِّدَنَا مُحَمَّدُ

جو کہ تیرے نزدیک بر گزیدہ ہے اے ہمارے حبیب اے ہمارے سردار محدث علیہ السلام

إِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَى رَبِّكَ فَاسْفَعْ لَنَا عِنْدَ الْمَوْلَى الْعَظِيمِ

بہم آپ کو آپ کے رب کے حضور و سیلہ بناتے ہیں تو آپ عظمت والے مولیٰ کی بارگاہ میں

يَا نِعَمَ الرَّسُولُ الظَّاهِرُ

ہماری شفارش فرمادیجئے، اے اچھے رسول پاک

اللَّهُمَّ شَفِعْ فِيْنَا بِجَاهِهِ عِنْدَكَ

اللّٰہ ان کی سفارش ہمارے حق میں قبول فرمائیجئے ان کی جاہ کی حرمت کے بغیر جوتیرے نزدیک ہے

۲ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَاتَّوَجَّهُ إِلَيْكَ بِحَبِّيْبِكَ

اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے حبیب کے سیلہ سے

الْمُصَطَّلُفِي عِنْدَكَ يَا حَبِيبَنَا يَا سَيِّدَنَا مُحَمَّدُ

جو کہ تمیرے نزدیک برگزیدہ ہے اے ہمارے حبیب اے ہمارے سردار محدث علیہ السلام

إِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ إِلَى رَبِّكَ فَأَشْفَعْ لَنَا عِنْدَ الْهُوَى الْعَظِيمِ

ہم آپ کو آپ کے رب کے حضور و سید بناتے ہیں تو آپ عظمت والے مولیٰ کی بارگاہ میں

يَا نَعَمَ الرَّسُولُ الظَّاهِرُ

ہماری شفارش فرمادیجئے، اے اچھے رسول پاک

اللَّهُمَّ شَفِعْ فِينَا بِجَاهِهِ عِنْدَكَ

اللّٰہ ان کی سفارش ہمارے حق میں قبول فرمائیجئے ان کی جاہ کی حرمت کے بغیر جو تمیرے نزدیک ہے

اللَّهُمَّ وَاجْعَلْنَا مِنْ خَيْرِ الْمُصَلِّيِّنَ وَالْمُسَلِّمِينَ

اے اللہ ہمیں ان پر بہتر درود و سلام بھیجئے والوں میں اور ان کے بہترین

عَلَيْهِ وَمِنْ خَيْرِ الْمُقَرَّبِينَ مِنْهُ وَالْوَارِدِينَ عَلَيْهِ

مقربوں اور ان کے سامنے حاضر ہونے والوں میں اور ان کے بہترین

وَمِنْ أَخْيَارِ الْمُحِبِّينَ فِيهِ وَالْمَحْبُوبِينَ لَدَيْهِ

عشاق اور ان کے محبوبین میں شامل کرو اور ہمیں ان (کی زیارت)

وَفَرِّحَنَا بِهِ فِي عَرَصَاتِ الْقِيمَةِ وَاجْعَلْهُ لَنَا دَلِيلًا إِلَى

سے میدان قیامت میں فرحت بخش اور ان کو ہمارے لئے جنت نعم کا

جَنَّةُ النَّعِيمِ بِلَامْؤُونَةٍ وَلَامْشَقَةٍ وَلَامَنَاقَشَةٍ

راہبر بلا کفوت و بلا مشقت اور بلا کشاکشی حساب کے بنا اور ان کو

الْحِسَابِ وَاجْعَلْهُ مُقْبِلاً عَلَيْنَا وَلَا تَجْعَلْهُ غَاضِبًا

ہم پر توجہ فرمانے والا بنا اور ان کو ہم پر غضبنا کرنے اور ہمیں

عَلَيْنَا وَاغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدِينَا وَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ

اور ہمارے آباء کو اور تمام مسلمانوں کو جرزندہ ہیں

وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْمَيِّتَيْنَ

اور جو مر چکے ہیں بخش دے اور ہمارا آخری کلمہ یہ ہے کہ

وَآخْرَ دَعْوَاتِنَا أَنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

سب تعریف اللہ کو زیبا ہے جو رب ہے عالمین کا

فَأَسْأَلُكَ يَا آلَهُ يَا آلَهُ يَا آلَهُ يَا سَمِيعَ يَا قَيُّومَ يَا ذَا الْجَلَالِ

پس میں تجوہ سے مانگتا ہوں یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اے حی اے قیوم اے جلال و انعام والے

وَالْأَكْرَامِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ

کوئی معبد نہیں بھرتی رے تو پاک ہے بیٹک میں خالموں میں سے ہوں

مِنَ الظَّلَمِيْنَ أَسْأَلُكَ بِمَا حَمَلَ كُرْسِيْكَ مِنْ

میں تجوہ سے مانگتا ہوں تیری عظمت اور تیرے جلال اور تیرے نور اور

عَظَمَتِكَ وَجَلَالِكَ وَجَهَالِكَ وَبَهَاءِكَ وَقُدرَتِكَ

تیری قدرت اور تیرے اقتدار کا واسطہ دے کر جسے تیری کری برداشت کر رہی ہے

وَسُلْطَانِكَ وَبِحَقِّ أَسْمَاءِكَ الْمَخْزُونَةِ الْمَكْنُونَةِ

اور تیرے ان ناموں کی حرمت کا واسطہ دے کر جو مستور و تختی اور یا ک ہیں

الْمُطَهَّرَةِ الَّتِي لَمْ يَسْطِلْعْ عَلَيْهَا أَحَدٌ مِّنْ خَلْقِكَ وَبِحَقِّ

تیری مخلوق میں سے ان پر کوئی بھی آگاہ نہیں ہوا اور اس نام کے

الإِسْمِ الَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَى اللَّيْلِ فَأَظْلَمَ وَعَلَى

واسطے سے جو تو نے رات پر رکھا تو وہ تاریک ہو گئی اور دن پر

النَّهَارِ فَاسْتَنَارَ وَعَلَى السَّمَوَاتِ فَاسْتَقْلَلَ وَعَلَى

رکھا تو وہ روشن ہو گیا اور آسمانوں پر رکھا تو وہ قائم ہو گئے

الْأَرْضِ فَاسْتَقَرَتْ وَعَلَى الْبِحَارِ فَانْفَجَرَتْ وَعَلَى

اور زمین پر رکھا تو ٹھہر گئی اور دریاؤں پر رکھا تو وہ جاری ہو گئے

الْعَيْوَنِ فَنَبَعَتْ وَعَلَى السَّحَابِ فَأَمْطَرَتْ وَأَسْئَلَكُ

اور چشمیں پر رکھا تو وہ ابل پڑے اور ابر پر رکھا تو وہ برستے لگا اور میں تجھ سے

بِالْأَسْمَاءِ الْمَكْتُوَبةِ فِي جَبَهَةِ سَيِّدِنَا حِبْرِيلَ عَلَيْهِ

ما نگتا ہوں ان ناموں کا واسطہ دے کر جو جریل علیہ السلام کی پیشانی میں لکھے

السَّلَامُ وَبِالْأَسْمَاءِ الْمَكْتُوَبةِ فِي جَبَهَةِ سَيِّدِنَا

ہوئے ہیں اور ان ناموں کا جو اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی میں

إِسْرَافِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَلَى جَمِيعِ الْمَلَائِكَةِ

لکھے ہوئے ہیں اور تمام فرشتوں پر اور میں تجھ سے ما نگتا ہوں

وَأَسْئَلَكَ بِالْأَسْمَاءِ الْمَكْتُوَبةِ حَوْلَ الْعَرْشِ

ان ناموں کے واسطے سے جو عرش کے چاروں طرف لکھے ہوئے ہیں

وَبِالْأَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ حَوْلَ الْكُرْسِيِّ وَاسْتَلِكْ

اور ان ناموں کے واسطے سے جو کرسی کے چاروں طرف تحریر ہیں

بِإِسْمِكَ الْعَظِيمِ الْأَعْظَمِ الَّذِي سَمِيتَ بِهِ نَفْسَكَ

اور تجوہ سے مانگتا ہوں اس باعظت و شان تیرے نام کے واسطے سے جو تو نے اپنا تجویز فرمایا

وَاسْتَلِكْ بِحَقِّ أَسْمَاءِكَ كُلِّهَا مَا عَلِمْتُ مِنْهَا

اور تجوہ سے مانگتا ہوں تیرے ان ناموں کے واسطے سے جو کوئی جانتا ہوں

وَمَا لَمْ أَعْلَمْ وَاسْتَلِكْ

یا نہیں جانتا اور میں تجوہ سے مانگتا ہوں

بِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا أَدْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

بواسطہ ان ناموں کے جن سے تجوہ حضرت آدم علیہ السلام نے پکارا تھا

وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ

اور بواسطہ ان ناموں کے جن سے تجوہ حضرت نوح علیہ السلام نے پکارا تھا

وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا صَالِحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ

اور بواسطہ ان ناموں کے جن سے تجوہ حضرت صالح علیہ السلام نے پکارا تھا

وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا يَعْقُوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

اور بواسطہ ان ناموں کے جن سے تجوہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پکارا تھا

وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

اور بواسطہ ان ناموں کے جن سے تجوہ حضرت یوسف علیہ السلام نے پکارا تھا

وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا يُونُسُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

اور بواسطہ ان ناموں کے جن سے تجھے حضرت یونس علیہ السلام نے پکارا تھا

وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ

اور بواسطہ ان ناموں کے جن سے تجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پکارا تھا

وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا هَارُونُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

اور بواسطہ ان ناموں کے جن سے تجھے حضرت ہارون علیہ السلام نے پکارا تھا

وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا شُعَيْبٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ

اور بواسطہ ان ناموں کے جن سے تجھے حضرت شعیب علیہ السلام نے پکارا تھا

وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

اور بواسطہ ان ناموں کے جن سے تجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکارا تھا

وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا إِسْمَاعِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

اور بواسطہ ان ناموں کے جن سے تجھے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پکارا تھا

وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا دَاؤُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

اور بواسطہ ان ناموں کے جن سے تجھے حضرت داؤد علیہ السلام نے پکارا تھا

وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

اور بواسطہ ان ناموں کے جن سے تجھے حضرت سليمان علیہ السلام نے پکارا تھا

وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا أَرْمِيَاءُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

اور بواسطہ ان ناموں کے جن سے تجھے حضرت ارمیاء علیہ السلام نے پکارا تھا

وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا زَكَرِيَاً عَلَيْهِ السَّلَامُ

اور بواسطہ ان ناموں کے جن سے تجھے حضرت زکریا علیہ السلام نے پکارا تھا

وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا يَحْيَى عَلَيْهِ السَّلَامُ

اور بواسطہ ان ناموں کے جن سے تجھے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے پکارا تھا

وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا يُوشُّحُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

اور بواسطہ ان ناموں کے جن سے تجھے حضرت یوشح علیہ السلام نے پکارا تھا

وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا الْخَضْرُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

اور بواسطہ ان ناموں کے جن سے تجھے حضرت خضر علیہ السلام نے پکارا تھا

وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا إِلْيَاسُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

اور بواسطہ ان ناموں کے جن سے تجھے حضرت ایلیاس علیہ السلام نے پکارا تھا

وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا الْيَسُوعُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

اور بواسطہ ان ناموں کے جن سے تجھے حضرت ایسوع علیہ السلام نے پکارا تھا

وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا ذُو الْكِفْلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

اور بواسطہ ان ناموں کے جن سے تجھے حضرت ذو الکفل علیہ السلام نے پکارا تھا

وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا عَيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ

اور بواسطہ ان ناموں کے جن سے تجھے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہما السلام نے پکارا تھا

وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ

اور بواسطہ ان ناموں کے جن سے تجھے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا تھا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيُّكَ وَرَسُولُكَ وَحَبِيبُكَ وَصَفِيُّكَ

جو تیرے نبی اور تیرے رسول اور تیرے محبوب اور تیرے برگزیدہ ہیں

يَا مَنْ قَالَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

اے وہ ذات جس نے فرمایا اور اس کا فرمانا تھا کہ اللہ ہی نے تم کو اور تمہارے اعمال

وَلَا يَصُدُّ رَعْنَ أَحَدٍ مِّنْ عَبِيدِهِ قَوْلٌ وَلَا فِعْلٌ

کو پیدا کیا اور اس کے بندوں میں کسی سے بھی کوئی قول، کوئی فعل، کوئی حرکت

وَلَا حَرَكَةً وَلَا سُكُونًا إِلَّا وَقَدْ سَبَقَ فِي عِلْمِهِ وَقَضَاءً

اور کوئی سکون صادر نہیں ہوتا مگر یہ کہ وہ پہلے سے اس کے علم اور اس کی قضاوی قدر میں

وَقَدْرِهِ كَيْفَ يَكُونُ كَمَا أَلْهَمْتَنِي وَقَضَيْتَ لِي

ٹے ہو پہلا کا ہے ایسا کیونکر ہوگا کہ جس طرح تو نے میرے دل میں ڈالا اور میرے لئے مقدم فرمایا

بِقِرَاءَةِ هَذَا الْكِتَابِ وَيَسِّرْتَ عَلَى فِيهِ الظَّرِيقَ

اس کتاب (دائل الخیرات) کا پڑھنا اور مجھے اس سے متعلق طریق اور اس باب

وَالآسَبَابَ وَنَفْيَتَ عَنْ قَلْبِي فِي هَذَا النَّبِيِّ الْكَرِيمِ

میر فرمادیجے اور تو نے میرے دل سے اس بزرگ نبی کے

الشَّكَّ وَالإِرْتِيَابَ وَغَلَبَتْ حُبَّةٌ عِنْدِي عَلَى حُبِّ

متعلق شک اور شبہ مٹا دیا اور ان کی محبت میرے لئے

جَمِيعِ الْأَقْرِبَاءِ وَالْأَجَمَاءِ

تمام عزیزوں اور دوستوں کی محبت پر غالب کر دی

أَسْئَلُكَ يَا آلَهُ يَا آلَهُ يَا آلَهُ أَنْ تَرْزُقَنِي وَكُلَّ مَنْ أَحَبَّهُ

میں تھے سے مانگتا ہوں اے اللہ اے اللہ مجھے اور ہر اس شخص کو جوان

وَاتَّعَةٌ شَفَاعَةٌ وَمُرَافَقَةٌ يَوْمَ الْجِسَابِ مِنْ غَيْرِ

سے محبت رکھے اور ان کی اتباع کرے ان کی شفاعت اور ان کی معیت

مُنَاقَشَةٌ وَلَا عَذَابٌ وَلَا تُوبِيعَجُونَ وَلَا عِتَابٌ وَأَنْ

بروز حساب نصیب فرمایا لاشکاری اور بلا عذاب اور بغیر زجر کے بلا عتاب کے

تَغْفِرَةٌ دُنْوِيٌّ وَتَسْتُرٌ عَوْيُونِ كُلَّهَا يَا وَهَابُ يَا غَفَارُ

اور میرے گناہ بخش دے اور میرے عیوب چھپا لے اے وہاب اے غفار

وَأَنْ تُنَعِّمَنِي بِالنَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ الْكَرِيمِ فِي جُمْلَةٍ

اور مجھے اپنے دیدار کی الذت عطا فرمادوستوں کے زمرہ میں

الْأَحَبَابِ يَوْمَ الْمَزِيدِ وَالثَّوَابِ وَأَنْ تَتَقَبَّلَ مِنِّي

اضافہ انعام اور ثواب کے دن اور مجھے سے میرا عمل قول فرمائے

عَمَلِي وَأَنْ تَعْفُوَ عَنِّي أَحَاطَ عِلْمُكِ بِهِ مِنْ خَطِيئَتِي

اور جو کچھ تیرے علم میں میری خط اور بھول اور غرش ہے وہ معاف

وَنِسْيَانِي وَعَصْيَانِي وَزَلَّيْهِ وَأَنْ تُبَلِّغَنِي مِنْ زِيَارَةٍ

فرمادے اور مجھے ان کی قبر شریف کی زیارت اور ان پر اور ان

قَبْرِهِ وَالْتَّسْلِيمِ عَلَيْهِ وَعَلَى صَاحِبِيهِ غَایَةَ اَمْلَى

کے صاحبین پر سلام عرض کرنے کے متعلق میری مشباہ آرزو پر پہنچا پئے

بِمَيْنَكَ وَفَضْلِكَ وَجُودِكَ وَكَرِمِكَ يَارَعُوفُ يَارَحِيمُ

احسان فضل اور جود کرم سے اے نبایت شفقت و حمفومنے والے اے کارساز

يَا وَلِيُّ وَأَنْ تُجَازِيَهُ عَنِّي وَعَنْ كُلِّ مَنْ أَمْنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ

اور ان کو میری طرف سے اور ہر شخص کی طرف جوان یہ ایمان لایا اور ان کا

مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءُ مِنْهُمُ

اتباع کیا مسلمان مردوں اور عورتوں میں خواہ زندہ ہوں

وَالْأَمْوَاتِ أَفْضَلَ وَأَتَمَّ وَأَعَمَّ مَا جَازَيْتَ بِهِ أَحَدًا

یادوں فضل اور اکمل اور وسیع ترین صلہ عطا فرمائیا جو تو نے

مِنْ خُلْقِكَ يَا قَوْمِيٌّ يَا عَزِيزُّ يَا عَالِيٌّ

کسی کو اپنی مخلوق میں دیا ہو اے قوت و غلبہ والے اے عالی ذات

وَاسْئِلُكَ اللَّهُمَّ بِعَقِّ مَا أَقْسَمْتُ بِهِ عَلَيْكَ أَنْ

اور میں تجھ سے ماگتا ہوں اے اللہ ان تمام کے واسطے جس کی میں نے تجوید کی

تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ مِنْ

کہ سیدنا محمد ﷺ پر اور سیدنا محمد ﷺ کی آل پر رحمت نازل فرمان تمام

قَبْلِ أَنْ تَكُونَ السَّمَاوَاتِ مَبْنِيَةً وَالْأَرْضُ مَدْحَيَةً

کے بغیر جن کو تو نے آسمان بنائے جانے اور زمین بچھائی جانے اور پیاراں

وَالْجَيَالُ عُلُوَيَّةً وَالْعِيُونُ مُنْفَجِرَةً وَالْبِحَارُ مُسَخَّرَةً

کے اونچا ہونے اور پیشوں کے جاری ہونے اور دریاؤں کے تابع فرمان ہونے

وَالآنَهَاٌ مُنْهَمَّةٌ وَالشَّمْسُ مُضْحِيَّةٌ وَالْقَمَرُ

اور نہروں کے بینے اور آفتاب کے روشن ہونے اور چاند کے چکنے

مُضِيَّاً وَالنَّجْمُ مُنْبِرًا وَلَا يَعْلَمُ أَحَدٌ حَيْثُ تَكُونُ

اور تاروں کے دمکنے سے پہلے پیدا فرمادیا تھا اور بجزیرتیرے کوئی بھی نہ جانتا تھا

إِلَّا أَنْتَ وَأَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى إِلَهِ عَدَّدَ كَلِمَاتِكَ وَأَنْ

کہ تیری کیا شان تھی اور ان پر اور ان کی آل پر اپنے کام کے بقدر رحمت نازل فرمایا

تُصَلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى إِلَهِ عَدَّدِ آيَاتِ الْقُرْآنِ وَحُرُوفِهِ وَأَنْ

اور ان پر اور ان کی آل پر قرآن کی آیتوں اور اس کے حروف کے بقدر

تُصَلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى إِلَهِ عَدَّدَ مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ وَأَنْ تُصَلِّي

رحمت نازل فرمایا اور ان پر اور ان کی آل پر ان پر درود پڑھنے والوں کے بقدر رحمت نازل فرمایا

عَلَيْهِ وَعَلَى إِلَهِ عَدَّدَ مَنْ لَمْ يُصَلِّي عَلَيْهِ وَأَنْ تُصَلِّي

اور ان پر اور ان کی آل پر ان پر درود پڑھنے والوں کے بقدر رحمت نازل فرمایا

عَلَيْهِ وَعَلَى إِلَهِ مِلَّا أَرْضِكَ وَأَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى إِلَهِ

اور ان پر اور ان کی آل پر اتنی رحمت نازل فرمایا جو تیری زمین کلبریز کر دے

عَدَّدَ مَا جَرَى بِهِ الْقَلْمَرُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ وَأَنْ تُصَلِّي

اور ان پر اور ان کی آل پر ان چیزوں کے بقدر رحمت نازل فرمایا جن کے متعلق لوح محفوظ میں قلم چلا

عَلَيْهِ وَعَلَى إِلَهِ عَدَّدَ مَا خَلَقْتَ فِي سَبْعَ سَمَاوَاتِكَ وَأَنْ

اور ان پر اور ان کی آل پر ان چیزوں کے بقدر رحمت نازل فرمایا جو تو نے اپنے ساتوں آسمانوں

تُصَلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى أَلِهِ عَدَدَ مَا أَنْتَ خَالِقُهُ فِيهِنَّ إِلَى

میں پیدا فرمائیں اور ان پر اور ان کی آل پر ان کے بقدر رحمت نازل فرمایا

يَوْمُ الْقِيمَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ وَأَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ

جن کو تو آسمانوں میں پیدا فرمائے گا تاروز قیامت ہر دن میں ہزار بار

وَعَلَى أَلِهِ عَدَدَ قَطْرِ الْبَطْرِ وَكُلِّ قَطْرَةٍ قَطَرَثُ مِنْ

اور ان پر اور ان کی آل پر بارش کی بوندوں کے بقدر رحمت نازل فرمایا اور ہر اس بوند کے بقدر

سَمَاءَكَ إِلَى أَرْضِكَ مِنْ يَوْمٍ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمٍ

رحمت نازل فرمایا جو تیرے آسمان سے تیری زمین کی طرف پکی جس دن تو نے دنیا

الْقِيمَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ

کو پیدا کیا اس دن سے لے کر قیامت کے دن تک ہر دن میں ہزار مرتبہ

ساتویں منزل بروز اتوار

وَأَسْئُلُكَ اللَّهُمَّ بِعَقِّ مَا أَقْسَمْتُ بِهِ عَلَيْكَ أَنْ

اور میں تجھ سے مانگتا ہوں اے اللہ ان تمام کے واسطے جس کی میں نے تجویز فرم دی

تُصَلِّيْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ مِنْ

کہ سیدنا محمد ﷺ پر اور سیدنا محمد ﷺ کی آل بر رحمت نازل فرمان ان تمام

قَبْلِ أَنْ تَكُونَ السَّمَاءُ مَبْنِيَّةً وَالْأَرْضُ مَدْحَيَّةً

کے بغیر جو لوٹو نے آسمان بنائے جانے اور زمین بچھائی جانے اور پہاڑوں

وَالْجِبَالُ عُلُوَيَّةً وَالْعِيُونُ مُنْفَجِرَةً وَالْبَحَارُ مُسَخَّرَةً

کے اوپھا ہونے اور چشوں کے جاری ہونے اور دریاؤں کے تابع فرمان ہونے

وَالْأَنْهَارُ مُنْهَمِرَةً وَالشَّمْسُ مُضْحِيَّةً وَالْقَمَرُ

اور نہروں کے پہنچنے اور آتاب کے روشن ہونے اور چاند کے چکنے

مُضِيَّاً وَالنَّجْمُ مُنْبِرًا وَلَا يَعْلَمُ أَحَدٌ حِيْثُ تَكُونُ

اور ستاروں کے دکھنے سے پہلے پیدا فرمادیا تھا اور بجز تیرے کوئی بھی نہ جانتا تھا

إِلَّا أَنَّ وَآنَ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ كَلِمَاتِكَ وَآنَ

کہ تیری کیا شان تھی اور ان کی آل پر اپنے کلام کے بغیر رحمت نازل فرما

تُصَلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى إِلَهِ عَدَّا إِيَّاتِ الْقُرْآنِ وَحُرُوفِهِ وَأَنْ

اور ان پر اور ان کی آں پر قرآن کی آیتوں اور اس کے حروف کے بغیر

تُصَلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى إِلَهِ عَدَّا مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ وَأَنْ تُصَلِّي

رحمت نازل فرمادو اور ان پر اور ان کی آں پر درود پڑھنے والوں کے بغیر رحمت نازل فرمادو

عَلَيْهِ وَعَلَى إِلَهِ عَدَّا مَنْ لَمْ يُصَلِّي عَلَيْهِ وَأَنْ تُصَلِّي

اور ان پر اور ان کی آں پر درود پڑھنے والوں کے بغیر رحمت نازل فرمادو

عَلَيْهِ وَعَلَى إِلَهِ مِلَّا أَرْضِكَ وَأَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى إِلَهِ

اور ان پر اور ان کی آں پر اتنی رحمت نازل فرمادو جیزی زمین کو بیڑ کر دے

عَدَّدَ مَا جَرَى بِهِ الْقَلْمُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ وَأَنْ تُصَلِّي

اور ان پر اور ان کی آں پر ان چیزوں کے بغیر رحمت نازل فرمادو جن کے متعلق اون محفوظ میں قلم چلا

عَلَيْهِ وَعَلَى إِلَهِ عَدَّدَ مَا خَلَقَتِ فِي سَبْعَ سَمَوَاتِكَ وَأَنْ

اور ان پر اور ان کی آں پر ان چیزوں کے بغیر رحمت نازل فرمادو جن تو ساتوں آسمانوں پر

تُصَلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى إِلَهِ عَدَّدَ مَا أَنْتَ خَالِقُهُ فِيهِنَّ إِلَى

میں پیدا فرمائیں اور ان پر اور ان کی آں پر ان کے بغیر رحمت نازل فرمادو

يَوْمُ الْقِيَمَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ وَأَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ

جن لوتو آسمانوں میں پیدا فرمائے گا تارو زقیمت ہر دن میں ہزار بار

وَعَلَى إِلَهِ عَدَّدَ قَطْرِ الْبَطْرِ وَكُلِّ قَطْرَةٍ قَطَرَتْ مِنْ

اور ان پر اور ان کی آں پر باڑ کی یوندوں کے بغیر رحمت نازل فرمادو اور اس یوند کے بغیر

سَمَاءِكَ إِلَى أَرْضِكَ مِنْ يَوْمَ خَلَقَتِ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ

رحمت نازل فرمادیتیرے آسمان سے تیری زمین کی طرف پہنچ جس دن تو نے دنیا

الْقِيمَةُ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ

کو پیدا آیا اس دن سے لے کر قیامت کے دن تک ہر دن میں ہزار مرتبہ

وَأَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى أَلِهِ عَدَدَ مِنْ سَبَّحَكَ وَقَدَّسَكَ

اے اللہ سیدنا محمد ﷺ پر اور سیدنا محمد کی آل پر اس تحقق کے بقدر رحمت نازل فرمایا

وَسَجَدَكَ وَعَظَّمَكَ مِنْ يَوْمَ خَلَقَتِ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ

جس نے تیری تسبیح و تقدیس کی ہے اور تھجھے جدہ کیا اور تیری عظمت کی ہے اس دن سے لے کر کہ

الْقِيمَةُ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ

تو نے دنیا کو پیدا فرمایا ہے روز قیامت تک ہر دن میں ہزار مرتبہ

وَأَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى أَلِهِ عَدَدَ كُلِّ سَنَةٍ خَلَقَتْهُمْ

اور ان پر اور ان کی آل پر ہر سال کے بقدر رحمت نازل فرمایا

فِيهَا مِنْ يَوْمٍ خَلَقَتِ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيمَةِ فِي كُلِّ

جن میں تو نے پیدا فرمایا ہے اس دن سے لے کر کہ تو نے دنیا کو پیدا فرمایا ہے

يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ

تارو ز قیامت ہر دن میں ہزار مرتبہ

وَأَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى أَلِهِ عَدَدَ السَّحَابِ الْجَارِيَةِ

اور ان پر اور ان کی آل پر چلنے والے بادولوں کے بقدر رحمت نازل فرمایا

وَأَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى أَلِهِ عَدَدَ الرِّيَاحِ النَّارِيَةِ مِنْ

اور ان پر اور ان کی آل پر چلنے والی ہواؤں کے بقدر رحمت نازل فرم۔

يَوْمَ خَلَقَتِ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيمَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ

اس دن سے لے کر کتو نے پیدا فرمایا ہے دنیا کو قیامت کے دن تک

الف مرّة

ہر دن میں ہزار مرتبہ

وَأَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى أَلِهِ عَدَدَ مَا هَبَّتِ الرِّيَاحُ عَلَيْهِ

اور ان پر اور ان کی آل پر ان چیزوں کے بقدر رحمت نازل فرم جن پر ہوانگیں چلیں

وَحَرَّكَتُهُ مِنِ الْأَغْصَانِ وَالْأَشْجَارِ وَالْأَوْرَاقِ

اور ان کو بلایا شاخوں درختوں، پتوں،

وَالثِّمَارِ وَالْأَزْهَارِ وَعَدَدَ مَا خَلَقَتْ عَلَى قَرَارِ أَرْضِكَ

چھلوں اور چھلوں میں سے اور ان چیزوں کے بقدر جس کتو نے پیدا فرمایا ہے اپنی سطح زمین پر

وَمَا بَيْنَ سَمُوتِكَ مِنْ يَوْمَ خَلَقَتِ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ

اور اپنے آسمانوں کے درمیان، اس دن سے لے کر کتو نے دنیا کو پیدا فرمایا ہے

الْقِيمَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ الْفَمَرَّةِ

تاریخ قیامت ہر دن میں ہزار مرتبہ

وَأَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى أَلِهِ عَدَدَ أَمْوَاجِ بِعَارِكَ مِنْ

اور یہ کہ ان پر اور ان کی آل پر اپنے سمندروں کی بہروں کے بقدر رحمت نازل فرم۔

يَوْمَ خَلَقَتِ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ

اس دن سے لے کر کتو نے دنیا کو پیدا فرمایا ہے تاریخ قیامت

الفَمَرَّةٌ

ہر دن میں ہزار مرتبہ

وَأَنْ تُصْلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى إِلَهِ عَدَدَ الرَّمْلِ وَالْحَصِّي وَكُلِّ

اور ان پر اور ان کی آں پر بیت اور انکھر بیوں اور ہر پتھر اور ڈھیلے کے بغیر

حَجَرٍ وَمَدَرٍ خَلَقَتِهِ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا

رحمت نازل فرمائجے تو نے پیدا فرمایا زمین کے شرق اور مغرب میں

سَهْلِهَا وَجَبَالِهَا وَأَوْدِيَتِهَا مِنْ يَوْمِ خَلَقَتِ الدُّنْيَا

زم جھسہ میں اور پیاڑوں میں اور ان کی گھاٹیوں میں اس دن سے لے کر

إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ الْفَمَرَّةٌ

تو نے پیدا فرمایا دنیا کو روز قیامت تک ہر دن میں ہزار مرتبہ

وَأَنْ تُصْلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى إِلَهِ عَدَدَ نَبَاتِ الْأَرْضِ فِي

اور ان پر اور ان کی آں پر زمین کی پیداوار کے بغیر رحمت نازل فرمایا

قِبْلَتِهَا وَجَوْفِهَا وَشَرْقِهَا وَغَرْبِهَا وَسَهْلِهَا وَجَبَالِهَا

خواہ اس کے اوپر ہو یا اس کے اندر اور شرق میں ہو یا غرب میں اور زم زمین میں ہو یا پیاڑوں میں

مِنْ شَجَرٍ وَثَمَرٍ وَأَوْرَاقٍ وَزُرْوَعٍ وَجَمِيعِ مَا أَخْرَجَتْ

مشائاد رخت اور بچل اور پتے اور کستھی اور تمام جیزیں جوز میں لئے کئیں

وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ نَبَاتٍ هَا وَبَرَّ كَاتِهَا مِنْ يَوْمٍ

اور جو اس سے نکلیں گی اس کی پیداوار اور اس کی برکات سے اس دن سے لے کر

خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ

تو نے دنیا کو پیدا فرمایا ہے تاروز قیامت ہر دن میں ہزار مرتبہ

وَأَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى إِلَهِ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ مِنَ الْإِنْسِينَ

اور تو ان پر اور ان کی آل پر ان تمام کے بقدر رحمت نازل فرمائ جو تو پیدا فرم اپ کا

وَالْجِنِّ وَالشَّيَاطِينَ وَمَا أَنْتَ حَالِقُهُ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ

انسان اور جنات اور شیاطین میں سے اور جو تو پیدا فرمائے گا

الْقِيَمَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ

تاروز قیامت ہر دن میں ہزار مرتبہ

وَأَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى إِلَهِ عَدَدَ كُلِّ شَعْرَةٍ فِي

اور ان پر اور ان کی آل پر ہر بال کے بقدر رحمت نازل فرمائ

أَبْدَانِهِمْ وَجُوُهِهِمْ وَعَلَى رُؤُوسِهِمْ مُتْذُلْ خَلَقْتَ

جو ان کے بدلوں اور چہروں پر اور ان کے سرروں پر ہوں جب سے بھی

الْدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ

تو نے دنیا کو پیدا فرمایا تاروز قیامت ہر دن میں ہزار مرتبہ

وَأَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى إِلَهِ عَدَدَ آنفَاسِهِمْ

اور ان پر اور ان کی آل پر ان کے سانس اور ان کے الفاظ اور ان کے گاہوں کے بقدر

وَالْفَاظِهِمْ وَالْحَاضِهِمْ مِنْ يَوْمَ خَلَقَتِ الدُّنْيَا إِلَى

رحمت نازل فرمادن سے لے کر کتو نے پیدا فرمایا دنیا کو

يَوْمِ الْقِيمَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ

تارو ز قیامت ہر دن میں ہزار مرتبہ

وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى أَلِهِ عَدَدَ طَيْرَانِ الْجِنِّ

اور ان پر اور ان کی آں پر جنات کی پواز

وَخَفْقَانِ الْإِنْسَنِ مِنْ يَوْمَ خَلَقَتِ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ

اور انسانوں کے نقل و حرکت کے بقدر رحمت نازل فرمادن سے لے کر

الْقِيمَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ

تو نے پیدا فرمایا دنیا کو تارو ز قیامت ہر دن میں ہزار مرتبہ

وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى أَلِهِ عَدَدَ كُلِّ بَهِيمَةٍ خَلَقَتَهَا

اور ان پر اور ان کی آں پر چوپائی کے بقدر رحمت نازل فرمادن سے پیدا فرمایا

عَلَى أَرْضِكَ صَغِيرَةً وَكَبِيرَةً فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ

اپنی زمین پر چھوٹا اور بڑا میں کے مشرق میں اور مغرب میں

وَمَغَارِبِهَا مِمَّا عُلِمَ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُ عِلْمَهُ إِلَّا أَنْتَ مِنْ

وہ کہ جن کا علم ہو گیا اور وہ کہ ان کا علم تیرے سو اسی کوئی نہیں

يَوْمَ خَلَقَتِ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيمَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ

اس دن سے لے کر کتو نے دنیا کو پیدا فرمایا تارو ز قیامت

الفَمَرَّةٌ

ہر دن میں ہزار مرتبہ

وَأَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى أَلِهِ عَدَدَ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ وَعَدَدٌ

اور ان پر اور ان کی آل پر ان کے بقدر رحمت نازل فرماجنبوں نے ان پر درود پڑھا

مَنْ لَمْ يُصَلِّي عَلَيْهِ وَعَدَدَ مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ إِلَى يَوْمِ

اور ان کے بقدر جنبوں نے ان پر درود نہیں پڑھا اور ان کے بقدر جو ان پر

الْقِيمَةُ فِي كُلِّ يَوْمٍ الْفَمَرَّةٌ

درود پڑھیں گے تاروز قیامت ہر دن میں ہزار مرتبہ

وَأَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى أَلِهِ عَدَدُ الْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ

اور ان پر اور ان کی آل پر زندوں اور مردوں کے بقدر رحمت نازل فرم

وَعَدَدَ مَا خَلَقَتْ مِنْ حَيَّاتٍ وَظَيْرٍ وَنَمَلٍ

اور ان کے بقدر جو نے مجھلیاں اور پندوں اور جنبوں پر

وَنَحْلٌ وَحَشَرَاتٍ

اور شہد کی کھیاں اور کیڑے پیدا فرمائے ہیں

وَأَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى أَلِهِ فِي اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى

اور ان پر اور ان کی آل پر رات میں رحمت نازل فرماجنبوں وہ ڈھانپ لے

وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّ وَأَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى أَلِهِ فِي

اور دن میں جنکو وہ چک جائے اور ان پر اور ان کی آل پر

الآخرة والأولى

پچھلے عالم میں اور اگلے عالم میں رحمت نازل فرما

وَإِنْ تُصَلِّيْ عَلَيْهِ وَعَلَى أَلِهِ مُنْذُ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا

اور ان پر اور ان کی آں پر اس وقت سے لے کر رحمت نازل فرمائجکو وہ بیوارہ میں پچھے

إِلَى أَنْ صَارَ كَهْلًا مَهْدِيًّا فَقَبَضْتَهُ إِلَيْكَ عَدْلًا

اس وقت تک کہ میانہ سال بہایت یافہ ہو گئے ہیں تو نے ان کو اپنی طرف عادل و پسندیدہ بنایا ہوا

مَرْضِيًّا لِتَبَعَثَهُ شَفِيعًا حَفِيًّا

امحالیاً تک ان کو شفیع شفیع بن کریم شرفاً مائے

وَإِنْ تُصَلِّيْ عَلَيْهِ وَعَلَى أَلِهِ عَدَّ خَلِقَكَ وَرِضَاءً

اور ان پر اور ان کی آں پر اپنی مخلوقات کے بقدر اور اپنی خوشنودی ذات کے بقدر

نَفْسِكَ وَزَنَةَ عَرْشِكَ وَمِدَادَ كَلِيَّاتِكَ وَإِنْ تُعْطِيهُ

اور اپنے عرش کے ہم وزن اور اپنے کلمات کی مقدار کے بقدر رحمت نازل فرمایا

الْوَسِيلَةُ وَالْفَضِيلَةُ وَالدَّرَجَةُ الرَّفِيعَةُ وَالْحَوْضُ

اور یہ کہ ان کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ اور حوض بوسٹ

الْمَوْرُودُ وَالْمَقَامُ الْمَحْمُودُ وَالْعِزَّ الْمَمْدُودُ وَإِنْ

اور مثقاً محدود اور عزت دراز عطر فرمایا

تُعْظِمَ بُرْهَانَةُ وَإِنْ تُشَرِّفَ بُنْيَانَةُ وَإِنْ تَرْفَعَ مَكَانَةُ

اور یہ کہ ان کی دلیل کو بڑائی بخش اور یہ کہ ان کی عمارت کو شرف بخشی اور ان کا مرتبہ بلند فرمائے

وَأَنْ تَسْتَعِمِلَنَا يَامَوْلَانَا بِسُنْتِهِ وَأَنْ تُسِيَّتَنَا عَلَى

اورے ہمارے آقا ان کی سنت پر عمل کرنے کی ہمیں تو فیض بخش اور ان کے طریقہ پر

مِلَّتِهِ وَأَنْ تَحْشِرَنَا فِي زُمْرَتِهِ وَتَحْتَ لِوَائِهِ وَأَنْ

ہمیں مرنا نصیب فرمائے اور ان کے گروہ میں اور ان کے جمٹے کے بخوبی ہمارا حضرت فرمائے

تَجْعَلَنَا مِنْ رُّفَاقَائِهِ وَأَنْ تُورِدَنَا حَوْضَهُ وَأَنْ تَسْقِيَنَا

اور ہمیں ان کے رفیقوں میں بنائے اور ہمیں ان کے خوش پرلاۓ اور ہمیں ان کے پیالہ سے پلائے

بِكَاسِهِ وَأَنْ تَنْفَعَنَا بِمَحَبَّتِهِ وَأَنْ تَتُوبَ عَلَيْنَا وَأَنْ

اور ہمیں ان کی محبت سے نفع بخشنے اور ہم اپر عنایت فرمائے

تُعَافِيَنَا مِنْ جَمِيعِ الْبَلَاءِ وَالْبُلُوَاءِ وَالْفِتَنِ مَا ظَهَرَ

اور تمام بیاؤں اور آقوتوں اور فتنوں سے عافیت بخشنے خواہ ظاہری ہوں یا باطنی

مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَأَنْ تَرْحَمَنَا وَأَنْ تَعْفُوَ عَنَّا وَتَغْفِرَ لَنَا

اور یہ کوئی ہم پر حرج فرمائے اور معافی دے اور ہمیں بخشد دے

وَلِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ

اور سب مؤمنین مردوں اور مورتوں کو اور مسلمان مردوں اور مورتوں کو

وَالْمُسِلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمَوَاتِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

زندوں کو اور مردوں کو اور ہر تعریف اللہ رب العالمین کے لئے ہے

رَبِّ الْعَلَمِينَ وَهُوَ حَسِيْبٌ وَنَعْمَ الْوَكِيلُ وَلَا حَوْلَ

اور وہی مجھے کافی ہے اور بڑا چھا کار ساز ہے اور شذور ہے

وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

اور نہ طاقت مگر اللہ بر تر مظمت والے سے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِّ مُحَمَّدٍ مَا سَجَعْتَ

اللہ سیدنا محمد ﷺ پر وآل سیدنا محمد ﷺ پر رحمت نازل فرما جب تک مجھی کو ترجم

الْحَمَاءِمُ وَحَمَتُ الْحَوَائِمُ وَسَرَحَتُ الْبَهَائِمُ

اور پیاسوں کی سوزش قائم رہے اور پچ پائے چتے رہیں

وَنَفَعَتِ التَّمَائِمُ وَشَدَّتِ الْعَمَائِمُ وَنَمَتِ النَّوَائِمُ

اور تغییر فائدہ دیتے رہیں اور غمے باندھے جاتے رہیں اور گھاس پاتاں اگتے رہے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِّ مُحَمَّدٍ مَا أَبْلَجَ

اے اللہ سیدنا محمد ﷺ پر اوآل سیدنا محمد ﷺ پر رحمت نازل فرما جب تک مجھی

الإِصْبَاحُ وَهَبَّتِ الرِّيَاحُ وَدَكَّتِ الْأَشْبَابُ وَتَعَاقَبَ

صح پیچکے رہے اور دوائیں جلتی رہیں اور اجسام حركت کرتے رہیں

الْغُدوُ وَالرَّوَاحُ وَتَقْلِيدُ الصِّفَاحُ وَاعْتُقَلَتِ

اور صح و شام کا سارا تاخم رہے اوتاواریں جھاکیں ہوتی رہیں

الرِّمَاحُ وَصَحَّتِ الْأَجْسَادُ وَالْأَرْوَاحُ

اور نیزے سنبھالے جاتے رہیں اور اجسام و ارواح تدرست رہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِّ مُحَمَّدٍ مَا ذَارَتِ

اے اللہ سیدنا محمد ﷺ پر اوآل سیدنا محمد ﷺ پر رحمت نازل فرما جب تک مجھی

الْأَفْلَكُ وَدَجَتُ الْأَحْلَكُ وَسَبَّحَتِ الْأَمْلَكُ

افلاک گردش میں مریم اور اتنی تاریک رہیں اور فرشتے تھے میں لگ رہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِّ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ

اے اللہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرمائی رحمت تو نے

عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارَكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِّ مُحَمَّدٍ كَمَا

حضرت ابراہیم پر نازل فرمائی اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت نازل فرمی

بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فِي الْعُلَمَاءِ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

جبکی برکت سیدنا ابراہیم پر دنیا جہان میں نازل فرمائی تھی بے شک توحید و بزرگی والا ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِّ مُحَمَّدٍ مَا ظَلَعَتِ

اے اللہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرماجب تک بھی

الشَّمْسُ وَمَا صُلِّيَتِ الْخَمْسُ وَمَا تَالَقَ بَرْقٌ وَتَدَقَّقَ

سورت نکتار ہے اور جب تک نماز پڑھنے پر بھی جاتی رہیں اور جب تک بھی کلی پچھتی رہے

وَدُقُّ وَمَا سَبَّحَ رَعْدُ

اور موساد و حمار مینہ برستا رہے اور جب تک رعد تھے کرتا رہا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِّ مُحَمَّدٍ مَلَأَ السَّمَوَاتِ

اے اللہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمانوں اوزمیں کے بھراوے کے بغیر

وَالْأَرْضَ وَمِلَأَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلَأَ مَا شِئْتَ مِنْ

اور ان کا درمیان بھر کر رحمت نازل فرمی اور جو چیز بھی تو پیدا کرنا چاہے

شئیے بعد

بعد میں وہ بھر کر رحمت نازل فرا

اللَّهُمَّ كَمَا قَامَ بِأَعْبَاءِ الرِّسَالَةِ وَاسْتَنْقَذَ الْخَلْقَ

اے اللہ جیسا کہ آنحضرت باررسالت لے کر کھڑے ہوئے اور مخلوق کو جہالت سے نکالا

مِنَ الْجَهَالَةِ وَجَاهَدَ أَهْلَ الْكُفْرِ وَالضَّلَالَةِ وَدَعَا إِلَىٰ

اور کفر و ضلال والوں پر جہاد کیا اور تیری تو حسینی طرف بیایا

تَوْحِيدِكَ وَقَاسَى الشَّدَادَ فِي إِرْشَادِ عَبْيَدِكَ فَأَعْطِهِ

اور تیریے بندوں کی اصلاح میں تکفین برداشت کیں

اللَّهُمَّ سُولَةٌ وَبَلَغَةٌ مَأْمُولَةٌ وَاتِّهِ الْفَضِيلَةَ

تو اے اللہ ان کو ان کا ما نگاہو اعطافہ فرماؤ ان کو ان کی مراد تک پہنچا اور ان کو فضیلت

وَالْوَسِيلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ

اور وسیلہ اور بلند درجہ عطا فرماؤ ان کو مقامِ محمود میں پہنچا

الْمَحْمُودُ الَّذِي وَعَدَتْهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيَعَادَ

جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے بے شک تو وعدہ کا خلاف نہیں کرتا

اللَّهُمَّ وَاجْعَلْنَا مِنَ الْمُتَّبِعِينَ لِشَرِيعَتِكَ ①

اور اے اللہ ہمیں ان کی شریعت کا اتباع کرنے والوں میں سے بنا

الْمُتَصَفِّينَ بِمَحَبَّتِهِ الْمُهْتَدِينَ بِهَدْيِهِ وَسِيرَتِهِ

اور ان کی محبت سے متصف اور ان کے طور و طریق پر چلنے والوں میں سے بنا

وَتَوَفَّنَا عَلَى سُنْتِهِ وَلَا تَحْرِمْنَا فَضْلَ شَفَاعَتِهِ

اور ہمیں ان کی سنت پر مرتاضی فرماؤ ہمیں ان کی شفاعت کے شرف سے محروم نہ رکھنا

وَاحْشُرْنَا فِي أَتَبَاعِهِ الْغُرِّ الْمَحَجَّلِينَ وَآشِيَاعِهِ

اور ان کے تابعین میں سے جن کے اعضاء و شوہونکے ہوں گے اور ان کی سابقین جماعتوں

السَّائِقِينَ وَاصْحَابِ الْيَوْمِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

اور داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دینے والوں میں ہمارا خشر فرمانا اے ارحم الرحمین

۱ اللَّهُمَّ وَاجْعَلْنَا مِنَ الْمُتَّبِعِينَ لِشَرِيعَتِهِ

اور اے اللہ ہمیں ان کی شریعت کا اتباع کرنے والوں میں سے بنا

الْمُتَّصِفِينَ بِمَحَبَّتِهِ الْمُهَتَّدِينَ بِهَدْيِهِ وَسِيرَتِهِ

اور ان کی محبت سے منصف اور ان کے طریق پر چلنے والوں میں سے بنا

وَتَوَفَّنَا عَلَى سُنْتِهِ وَلَا تَحْرِمْنَا فَضْلَ شَفَاعَتِهِ

اور ہمیں ان کی سنت پر مرتاضی فرماؤ ہمیں ان کی شفاعت کے شرف سے محروم نہ رکھنا

وَاحْشُرْنَا فِي أَتَبَاعِهِ الْغُرِّ الْمَحَجَّلِينَ وَآشِيَاعِهِ

اور ان کے تابعین میں سے جن کے اعضاء و شوہونکے ہوں گے اور ان کی سابقین جماعتوں

السَّائِقِينَ وَاصْحَابِ الْيَوْمِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

اور داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دینے والوں میں ہمارا خشر فرمانا اے ارحم الرحمین

۲ اللَّهُمَّ وَاجْعَلْنَا مِنَ الْمُتَّبِعِينَ لِشَرِيعَتِهِ

اور اے اللہ ہمیں ان کی شریعت کا اتباع کرنے والوں میں سے بنا

الْمُتَّصِفِينَ بِمَحَبَّتِهِ الْمُهْتَدِينَ بِهُدْيِهِ وَسِيرَتِهِ

اور ان کی محبت سے متصف اور ان کے طریق پر علم والوں میں سے ہے

وَتَوَفَّنَا عَلَى سُنْنَتِهِ وَلَا تَحِرِّمُنَا فَضْلَ شَفَاعَتِهِ

اور ہمیں ان کی سنت پر مرتضیٰ فرمادیں ان کی شفاعت کے شرف سے محروم نہ رکھنا

وَاحْشُرْنَا فِي أَتَابَاعِهِ الْغَرِّ الْمَحَجَّلِينَ وَأَشْيَاعِهِ

اور ان کے تابعین میں سے جن کے اعتراض و ضوچکتے ہوں گے اور ان کی سابقین جماعتوں

السَّارِقِينَ وَأَصْحَابِ الْيَمِينِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

اور داہنہ تھیں نامہ اعمال دینے والوں میں ہمارا حشر فرماناے احمد الرحمن

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَلَائِكَتِكَ وَالْمُقَرَّبِينَ وَعَلَى

اللہ اپنے فرشتوں اور مقربین پر

أَنْبِيَاً إِنَّكَ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى أَهْلِ طَاعَتِكَ أَجْمَعِينَ

اور اپنے انبیاء و مرسلین پر اور اپنے مطیعین پر سب پر رحمت نازل فرمایا

وَاجْعَلْنَا بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ مِّنَ الْمَرْحُومِينَ

اور ہمیں ان پر دعائے رحمت کی بدوالت مرحومین میں سے بنا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ الْمَبْعُوثَ مِنْ تَهَامَةَ وَالْأَمِيرِ

اے اللہ سید ناصح علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائیں عرب سے مبوث ہوئے

بِالْمَعْرُوفِ وَالْإِسْتِقَامَةِ وَالشَّفَيْعِ لِأَهْلِ الذُّنُوبِ فِي

اور یہی اور استقامت کا حکم دینے والے ہیں اور میدان قیامت میں

عَرَصَاتِ الْقِيمَةِ

گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے

اَللّٰهُمَّ اَبْلِغْ عَنَّا نَبِيَّنَا وَشَفِيعَنَا وَحَبِيبَنَا اَفْضَلَ

اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے نبی ہمارے شفیع اور ہمارے حبیب کو بخوبیں

الصَّلَاةُ وَالتَّسْلِيمُ وَابْعَثُهُ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ

صلوة وسلام پہنچا اور ان کو مقام محمود میں اٹھانا

الْكَرِيمُ وَأَتَهُ الْفَضِيلَةُ وَالْوُسِيلَةُ وَالدَّرَجَةُ

اور ان کی فضیلت اور وسیلہ اور بلند درج عطا فرمانا

الرَّفِيعَةُ الَّتِي وَعَدَتْهُ فِي الْمَوْقِفِ الْعَظِيمِ

جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے میدان حشر میں

وَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ صَلَاةً دَائِمَةً مُتَّصِلَّةً

اور اے الشان پر درجت نازل فرماجو اگی اور مسلسل ہو

تَتَوَالِي وَتَدُومُ

کہ پے در پے اور بیمیش رہے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى اِلٰهٖ مَا لَاحَ بَارِقٌ وَذَرَّ شَارِقٌ

اے اللہ ان پر اور ان کی آں پر درجت نازل فرماجب تک بھی جھکتی اور سورج لکھتا رہے

وَوَقَبَ غَاسِقٌ وَانْهَمَرَ وَادِقٌ وَصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى اِلٰهٖ

اور رات تاریک ہوتی اور میند برستا رہے اور ان پر اور ان کی آں پر درجت نازل فرماجب تک بھی جھکتی اور سورج لکھتا رہے

مِلَأَ اللَّوْحَ وَالْفَضَاءِ وَمِثْلَ نُجُومِ السَّمَااءِ وَعَدَ

خلا اور لوح کے بھراؤ کے برابر اور آسمان کے تباہوں کے مساوی

الْقَطْرِ وَالْحَصْنِ وَصَلٌ عَلَيْهِ وَعَلٰى إِلٰهٖ صَلَوةً

اور قطرات اور نکریوں کے بقدر اور ان پر اور ان کی آپ پر ایسی رحمت نازل فرما

لَا تَعْدُ وَلَا تُحْصِي

جن کی گنتی و شمارہ ہو سکے

اللَّهُمَّ صَلِ عَلَيْهِ وَعَلٰى إِلٰهٖ زِنَةِ عَرْشِكَ وَمَبْلَغِ

اے اللہ ان پر اپنے عرش کے نام و وزن اور اپنی خوشنودی کی مقدار کے بقدر

رِضَاكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ وَمُنْتَهِيَ رَحْمَتِكَ

اور اپنے کلمات کے بقدر اپنی رحمت کی حد کے بقدر رحمت نازل فرما

اللَّهُمَّ صَلِ عَلَيْهِ وَعَلٰى إِلٰهٖ وَآزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَبَارِكْ

اے اللہ ان پر اور ان کی اولاد پر اور ان کی بیویوں اور ان کی ائل پر

عَلَيْهِ وَعَلٰى إِلٰهٖ وَآزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَيْتَ

رحمت نازل فرما اور ان پر اور ان کی اولاد اور ان کی بیویوں اور ان کی ائل پر برکتیں سمجھ

وَبَارِكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيمَ وَعَلٰى أَلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيلٌ

جمیلی رحمت اور برکتیں تو نے یہ دن ابراہیم پر اور یہ دن ابراہیم کی اولاد پر نازل فرمائی تھیں بے شک توحید و بزرگی کا

مَجِيدٌ وَجَازِهٗ عَنَّا أَفْضَلَ مَا جَازَيْتَ بِهِ نَبِيًّا عَنْ

مستحق ہے اور ان کو ہماری طرف سے بہتر سے بہتر صدقہ عطا فرمائی جو تو نے صدقہ عطا فرمایا ہو کسی نبی کو

أُمّتَه وَاجْعَلْنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ بِمِنْهَا حَشْرِيْعَتِه

اس کی امت کی طرف سے اور ہمیں ان کی شریعت کے راستے پر چلنے والوں میں سے بنا

وَاهْدِنَا بِهَدْيِهِ وَسِيرَتِهِ وَتَوَفَّنَا عَلَى مِلَّتِهِ وَاحْشُرْنَا

اور ہمیں ان کے طریقہ پر چلا اور ان کی ملت پر مرنا نصیب فرمادا ہمارا حشر

يَوْمَ الفَزَعِ الْأَكْبَرِ مِنَ الْأَمْنِيْنَ فِي زُمْرَتِهِ وَأَمْتَنَّا

خت گھبراہت کے دن امن والوں میں ان کی جماعت کے ہمراہ فرمادا ہماری ہمیں ان کی محبت

عَلَى حُبِّهِ وَحُبِّ إِلَهٍ وَاصْحَابِهِ وَذُرِّيَّتِهِ

اور ان کی آں اور ان کے صحابہ اور ان کی ذریت کی محبت پر مرنا نصیب فرمایا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ أَفْضَلِ أَنْبِيَاكَ وَأَكْرَمِ

اللّٰہ سیدنا محمد ﷺ پر رحمت نازل فرمابو کہ تیرے نبیوں میں افضل اور تیرے متنبہ کردہ بندوں میں

أَصْفِيَّاً إِنَّكَ وَإِمَامٌ أَوْلَى إِنَّكَ وَخَاتِمٌ أَنْبِيَّاً إِنَّكَ

بزرگ تر اور تیرے اولیاء کے پیشوں اور تیرے انبیاء کے قائم کنده

وَحِبِّيْبِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَشَهِيْدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَشَفِيْعِ

اور رب العالمین کے بیارے اور شفیعوں کے گواہ اور گناہ گاروں کے شفیع

الْمُذَنِّيْمِيْنَ وَسَيِّدِ وُلْدِ اَدَمَ اَجْمَعِيْنَ الْمَرْفُوعِ

اور تمام بنی آدم کے سرداریں کے سلطانکار مقربین میں ان کا تذکرہ

الَّذِيْنَ كُرِّرُ فِي الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ الْبَشِّيرِ التَّنَذِيرِ

او نجا کیا گیا، مردہ سانے والے اور عذاب سے ڈرانے والے میں

السِّرَاجُ الْمُبَيِّنُ الصَّادِقُ الْأَمِينُ الْحَقُّ الْمُبَيِّنُ

روشن چماں، سچے امانت دار، کھلے برق

الرَّءُوفُ الرَّحِيمُ الْهَادِيُّ إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ

شیخ و مہریان، دراہ مستقیم کے راہبریں،

الَّذِي أَتَيْتَهُ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ

جن کو تو نے سات آیتیں سورہ فاتحہ کی مع قرآن عظیم کے عطا فرمائیں،

نَبِيُّ الرَّحْمَةِ وَهَادِيُّ الْأُمَّةِ أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقَ عَنْهُ

مجسم رحمت نبی اور امانت کے راہبریں، ان سب میں پسل جو قبر سے اٹھیں گے

الْأَرْضُ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَالْمُؤْيَّدُ بِعِجْرِيلَ

اور جنت میں جائیں گے اور وہ کہ جن کو جیریں میکائیں سے

وَمِيكَائِيلَ الْمُبَشِّرِ بِهِ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ

قوت دی گئی اور تورات و انجلیل میں ان کی بشارت دی گئی،

الْمُضَطَّفُ الْمُجْتَبِيُّ الْمُنْتَخَبُ أَبِي الْقَاسِمِ مُحَمَّدُ بْنُ

بر گزیدہ و چیدہ و منتخب ابو القاسم سیدنا محمد بن الحسن

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُظْلِمِ بْنِ هَاشِمٍ

بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم

أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَلَائِكَتِكَ وَالْمُقَرَّبِينَ الَّذِينَ

اے اللہ اپنے فرشتوں پر اور مقربین پر رحمت نازل فرا

يُسِّيْحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ وَلَا يَعْصُونَ اللَّهَ

بجورات دن شیخ پڑھتے رہتے ہیں، نہ سختے ہیں اور نہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں

مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ

اور جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں

اللَّهُمَّ وَكَمَا أَصْطَفَيْتَهُمْ سُفَّارًا إِلَى رُسُلِكَ وَأَمْنًا

اور اے اللہ جس طرح تو نے ان کو حکم لیا پسے رسولوں کی طرف پیغام رسال اور اپنی وحی پر ایمن

عَلَى وَحْيِكَ وَشُهَدَاءَ عَلَى خَلْقِكَ وَخَرَقَتْ لَهُمْ كُنْفَ

اور اپنی خلوق پر گواہ بنانے کے لئے اور تو نے ان کے لئے اپنے جاپ کے پردوں کو چاک فرمادیا

حُجْبِكَ وَأَطْلَعْتَهُمْ عَلَى مَكْنُونِ غَيْبِكَ وَاخْتَرْتَ

اور ان کو اپنے چپے ہوئے غیر پر آگاہ کر دیا

مِنْهُمْ خَزَنَةً لِجَنَّتِكَ وَحَمِلَةً لِعَرِشِكَ وَجَعَلْتَهُمْ

اور ان میں سے اپنی جنت کے حافظین اور اپنے عرش کے حاملین کا اختبا فرمایا

مِنْ أَكْثَرِ جُنُودِكَ وَفَضْلَتِهِمْ عَلَى الْوَرَى

اور ان کو اپنے لشکروں کا بڑا حصہ بنایا اور ان کو خلوق پر فضیلت بخشی

وَأَسْكَنْتَهُمْ السَّمَاوَاتِ الْعُلَى وَنَزَّهْتَهُمْ عَنِ

اور ان کو اپنے آسمانوں پر بسا یا اور ان کو گناہوں

الْمَعَاصِي وَالَّذِنَاءِ وَقَدَّسْتَهُمْ عَنِ النَّقَائِصِ

اور ذیل حکمتوں سے منزہ رکھا اور ان کو عیوب اور آفتوں سے پاک و صاف رکھا

وَالْأَفَاتِ فَصَلٌ عَلَيْهِمْ صَلُوةً دَائِمَةً تَرِيدُهُمْ بِهَا

لہذا ان پر وہ داعی رحمت نازل فرمائیں سے تو ان کی بزرگی برخادے

فَضْلًا وَتَجْعَلْنَا لِاسْتِغْفَارِهِمْ بِهَا أَهْلًا

اور تمیں اس کی بدولت ان کی دعا مغفرت کا مختصر بنانے

اَللّٰهُمَّ وَصَلٌ عَلٰى جَمِيعِ اَنْبِيَاِكَ وَرُسُلِكَ الَّذِينَ

اور اے اللہ اپنے تمام انبیاء اور رسولوں پر رحمت نازل فرما

شَرَحَتْ صُدُورَهُمْ وَأَوْدَعَتْهُمْ حِكْمَتَكَ وَطَوَّقْتَهُمْ

کہ تو نے ان کے سینے کھول دیئے اور ان میں اپنی داش کو ماہت بنا کر کھدیا اور ان کو اپنی نبوت کا

نُبُوَّتَكَ وَأَنْزَلْتَ عَلَيْهِمْ كُتُبَكَ وَهَدَيْتَ بِهِمْ

مکلف بتایا اور ان پر اپنی کتابتیں اُتاریں اور ان کے ذریعہ اپنی مخلوق کو بدایت بخشی

خَلْقَكَ وَدَعَوَا إِلٰى تَوْحِيدِكَ وَشَوَّقُوا إِلٰى وَعْدِكَ

اور انہوں نے تیری توحید کی طرف بلا یا اور تیرے وعدہ کا شانہ بنایا

وَخَوَّفُوا مِنْ وَعِيْدِكَ وَأَرْسَدُوا إِلٰى سَبِيلِكَ وَقَامُوا

اور تیری دھمکی کا خوف دلا یا اور تیرے راست کو بتایا اور تیری جنت و دلکش کو

بِحُجَّتِكَ وَدَلِيلِكَ وَسَلِيمَ اللَّهُمَّ عَلَيْهِمْ تَسْلِيمًا

قائم کیا اور اے اللہ سلام بھی ان پر

وَهَبْ لَنَا بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ أَجْرًا عَظِيْمًا

اور تمیں ان پر دعا مار رحمت کرنے کی وجہ سے ابر عظیم عطا فرمایا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِّي مُحَمَّدٍ صَلُوةً دَائِمَةً

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِّي مُحَمَّدٍ صَلُوةً دَائِمَةً پرداگی رحمت نازل فرمایا

مَقْبُولَةٌ تُؤْدِي بِهَا عَنَّا حَقَّهُ الْعَظِيمُ

امی رحمت جو مقبول ہو جس کی بدوات توہم سے ان کا برائق ادا کر دے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْحُسْنِ وَالْجَمَالِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْحُسْنِ وَالْجَمَالِ پر رحمت نازل فرمایا صاحب حسن و جمال میں،

وَالْبَهَجَةُ وَالْكَيْالُ وَالْبَهَاءُ وَالنُّورُ وَالْوِلْدَانِ

صاحب رونق و کمال میں اور چک دک و والے اور حور و غلام و والے

وَالْحُورُ وَالْغَرَفُ وَالْقُصُورُ وَاللِّسَانِ الشَّكُورِ

اور جنتی در پیکوں و محلات والے اور شکر گزار بن والے

وَالْقُلْبُ الْمَشْكُورُ وَالْعِلْمُ الْمَشْهُورُ وَالْجَيْشُ

اور قابل قدر دل اور شہر علم اور مظفر و منصور شکر والے میں

الْمَتَصُورُ وَالْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ وَالْأَزْوَاجِ الظَّاهِرَاتِ

اور میتوں اور بیٹیوں اور پاک طیبت بیٹیوں والے میں

وَالْعُلوُّ عَلَى الدَّرَجَاتِ وَالْزَمْرَدُ وَالْمَقَامُ وَالْمَشْعَرُ

اور بلند درجات والے اور زمرم اور مقام ابراتم اور مشعر حرام والے میں

الْحَرَامُ وَاجْتِنَابُ الْأَثَمِ وَتَرِبِيَّةُ الْأَيْتَامِ وَالْحَجَّ

اور گناہوں سے پرہیز اور توبیوں کی پروش کرنے والے میں اور حج

وَتِلَاءُهُ الْقُرْآنِ وَتَسْبِيحُ الرَّحْمَنِ وَصِيَامُ رَمَضَانَ

وتلاوت قرآن اور اللہ کی تسبیح اور ماہ رمضان کے روزوں والے بیان

وَالْبُوَاءُ الْمَعْقُودُ وَالْكَرَمُ وَالْجُودُ وَالْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ

بندھے ہوئے چینڈے والے اور کرم و خدا والے اور وعدہ و فدائی والے بیان

صَاحِبُ الرَّغْبَةِ وَالتَّرْغِيبِ وَالْبَغْلَةِ وَالنَّجِيبِ

رغبت اور ترغیب والے بیان اور خپر اور گھوڑوں پر سوار ہونے والے بیان

وَالْخُوضُ وَالْقَضِيبُ النَّبِيُّ الْأَوَابُ النَّاطِقُ

خوض کوثر اور تکوار والے نبی بیان بے حد خوش والے حق بات بولنے والے بیان

بِالصَّوَابِ الْمَنْعُوتِ فِي الْكِتَابِ النَّبِيُّ عَبْدِ اللَّهِ النَّبِيُّ

جن کی تعریف آسمانی کتاب میں ہے وہ نبی جو اللہ کے بندے ہیں

كَنْزُ اللَّهِ النَّبِيُّ حَجَّةُ اللَّهِ النَّبِيُّ مَنْ أَطَاعَهُ فَقَدْ أَطَاعَ

وہ نبی جو اللہ کا خزانہ ہیں، وہ نبی جو اللہ کی حجت ہیں، وہ نبی کہ جس نے ان کی اطاعت کی

اللَّهُ وَمَنْ عَصَاهُ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ النَّبِيُّ الْعَرَبِيُّ الْقُرَشِيُّ

اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے ان کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، وہ نبی جو عربی و قرشی ہیں

الرَّمَزَهُ الْبَكِّيُّ التَّهَاهِيُّ صَاحِبُ الْوَجْهِ الْجَمِيلِ

زمزم کی طرف منسوب ہیں، بکی ہیں، جازی ہیں، صیمن چہرے والے ہیں،

وَالظَّرِيفُ الْكَحِيلُ وَالْخَلِ الْأَسِيلُ وَالْكَوَافِرُ

سرگیں آنکھوں اور پکنے رخسار والے ہیں، نہر کوثر

وَالسَّلْسِيلُ قَاهِرُ الْمُضَادِينَ مُبِينُ الْكُفَّارِينَ

سلسلی والے ہیں، بخانوں کو دبائے والے ہیں، کافروں کو بلاک کرنے والے ہیں،

وَقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ قَائِدُ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِينَ إِلَى جَنَّاتِ

مشکوکوں کو قتل کرنے والے ہیں، وشوکرنے والوں کو جنات انعام

النَّعِيمُ وَجْهَارُ الْكَرِيمُ صَاحِبُ جَبْرِيلَ عَلَيْهِ

اور رب کریم کے جوار کی طرف لے جانے والے ہیں، صاحب جبریل علی السلام ہیں،

السَّلَامُ وَرَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَشَفِيعُ الْمُذْنِبِينَ

رب العالمین کے پیغمبر اور نگاہ گاروں کے شفیع ہیں،

وَغَايَةُ الْغَمَامِ وَمِصْبَاحُ الظَّلَامِ وَقَمَرُ التَّمَامِ

ابر کے مقصود (یعنی وجہ باران رحمت) ہیں، اندرھروں کے چڑائیں، اور پورے چاندیں،

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى أَهْلِهِ الْمُصْطَفَيْنَ مِنْ أَطْهَرِ جِبَلٍ

ان پر ان کی آں پر اللہ کی حمیت ہوں جو پاکیزہ ترین اصل سے نسبت ہیں

صَلْوَةً دَائِمَةً عَلَى الْأَبَدِ غَيْرِ مُضِيَّحَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

اسی حمیت ہو دی جو ایسی ہے کہ لئے با اخلاص، اللہ ان پر اور ان کی آں پر رحمت نازل فرمائے

وَعَلَى أَهْلِهِ صَلْوَةً يَتَجَدَّدُ بِهَا حُمُورُهَا وَيُشَرَّفُ بِهَا فِي

اسی رحمت کے اس سے ان کا سردار ہوتا تازہ ہوتا رہے اور اس سے بروز قیامت

الْمِيَعَادِ بَعْثَةٌ وَنُشُورٌ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى أَهْلِهِ

ان کا تمہرے سے اختنا او میدان حشر میں تشریف لانا اصحاب شرف بنے پاں اللہ ان پر اور ان کی آں پر

الْأَنْجِمِ الظَّالِعِ صَلْوَةً تَجُودُ عَلَيْهِمْ أَجَوْدُ الْغُيُوشِ

جو چکدار ستارے میں ایسی رحمت نازل فرمائے جوان پر بے حد برنسے اے باولوں کی بارش کی طرح

الْهَوَامِعَ رَسْلَةٌ مِنْ أَرْجَحِ الْعَرَبِ مِيزَانًا وَأَوْضَحَهَا

برستی رہے، وہ رسول جن کو عرب کے رائج ترین معیار پر اور واضح ترین تقریر والا بنا کر

بَيَانًا وَأَفْصَحَهَا لِسَانًا وَأَشْبَخَهَا إِيمَانًا وَأَعْلَاهَا

او واضح ترین زبان اور مضبوط ترین ایمان والا بنا کر

مَقَامًا وَأَخْلَاهَا كَلَامًا وَأَوْفَاهَا ذِمَّامًا وَأَصْفَاهَا

اور کبھرین مقام او شیریں ترین کلام والا اور سب سے زیادہ وعدہ و فکر نے والا اور صاف ترین طیبین والا

رَغَامًا فَأَوْضَحَ الظَّرِيقَةَ وَنَصَحَ الْخَلِيقَةَ وَشَهَرَ

بنا کر بیجا پیس اس نے راستہ واضح کر دیا اور ملکوں کو نصیحت کی

الإِسْلَامُ وَكَسَرَ الْأَصْنَامَ وَأَظْهَرَ الْأَحْكَامَ وَحَظَرَ

اور اسلام کو شہیر کیا اور بت توڑ دیئے اور حکام ظاہر کئے اور حرام کو منوع تباہیا

الْحَرَامَ وَعَمَّ بِالْإِنْعَامِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ فِي

اور انعام کو عام بنا دیا، اللہ کی رحمت جوان پر اور ان کی آل پر

كُلِّ مَحْفَلٍ وَمَقَامٍ أَفْضَلَ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ صَلَّى اللَّهُ

ہر مجلس و مقام میں، بکھرین رحمت اور سلام اللہ ان پر اور ان کی آل پر

عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَوْدًا وَبَنَاءً صَلْوَةً تَكُونُ ذَخِيرَةً وَوِزْدًا

بار بار اور ختنی رحمت نازل فرمائے، ایسی رحمت جو خیرہ اور رو رہو

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَلِهٖ صَلْوَةً تَامَّةً زَاكِيَّةً وَصَلَّى اللَّهُ

الله ان پر اور ان کی آل پر ایسی رحمت نازل فرمائے جوکل اور پاک ہو

عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَلِهٖ صَلْوَةً يَتَبَعُهَا رُوحٌ وَرِيحَانٌ وَيَعْقُبُهَا

اور اللہ ان پر اور ان کی آل پر ایسی رحمت نازل فرمائے کہ اس کے ساتھ فرشت اور چمک لگی ہوئی ہو

مَغْفِرَةً وَرَضْوَانٍ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ أَفْضَلِ مَنْ طَابَ مِنْهُ

اور اس کے قدم پنچھیں اور خوشودی ہو، اور اللہ اس پر رحمت نازل فرمائے جو اس جماعت میں

النِّجَارُ وَسَمَا بِهِ الْفَخَارُ وَاسْتَنَارَتْ بِنُورِ جَبَيْنِهِ

بہترین میں جس سے نسب کو پاکیزگی اور شرف کو فضیلت نصیب ہوئی اور جس کے نور پیشانی سے

الْأَقْبَارُ وَتَضَائَلَتْ عِنْدَ جُودِ يَمِينِهِ الْغَمَائِمُ

چاند کو نور حاصل ہوا اور جس کے باہم کی خاکوں سے باول اور مندر شرعاً گئے

وَالْبِحَارُ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّدٌ بِالَّذِي بِبَاهِرٍ أَيَّاتِهِ

یعنی سیدنا و نبی ما محمد ﷺ کے کلیات جو اس کے

أَضَاءَتِ الْأَنْجَادُ وَالْأَغْوَارُ وَبِسْعَجَرَاتِ أَيَّاتِهِ نَطَقَ

تمام نشیب و فراز چمک اشے اور جس کی خاص ناص نشانیوں کی

الْكِتَابُ وَتَوَاتَرِتِ الْأَخْبَارُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَلِهٖ

آسمانی کتاب میں گویا ہیں اور اطلاعات حدتو اترستک پنچھیں، اللہ ان پر اور ان آل پر

وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ هَاجَرُوا لِتُنْصَرَتِهِ وَنَصْرُوهُ فِي

اور ان کے صحابہ پر رحمت نازل فرمائے جنہیوں نے ان کی مدد کی خاطر وطن چھوڑا

هَبْرَتِهِ فَنَعْمَ الْمُهَاجِرُونَ وَنَعْمَ الْأَنْصَارُ صَلَوَةً نَّايمَيَةً

اور ان کی هجرت میں ان کی مدد کی، پس کیا ہی خوب تھے مہاجرین اور کیا ہی خوب تھے انصار۔

دَائِئَةً مَّا سَجَعْتُ فِي أَيْكَهَا الْأَطْيَارُ وَهَبَعْتُ بِوَلْيَهَا

ایسی رحمت جو برحقی رہے اور دام رہے جب تک مجھی درخواں کے چند میں پرندے پھپاتے رہیں

الرِّيَمَةُ الْمِدْرَارُ ضَاعَفَ اللَّهُ عَلَيْهِ دَائِئَمَ صَلَوَاتِهِ

اور مسلا و حار بارش میں برساتی رہے، اللہ ان پر اپنی رحمت کو روز افروں بنائے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِيِّ الْقَلِيلِيْنَ الْكَرَامِ

اے اللہ سیدنا محمد ﷺ پر اور ان کی پاک طیبیت بزرگ خصلت آں پر رحمت نازل فرمی

صَلَوَةً مَّوْصُولَةً دَائِئَةً الْإِتْصَالِ بِدَوَامِ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

ایسی رحمت جو مسلسل اور بیشتر ہے جلال و اکرام والے خدا کی بیگنی تھی

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِنَ الَّذِي هُوَ قُطبُ الْجَلَالَةِ وَشَمِسُ

اے اللہ سیدنا محمد ﷺ پر رحمت نازل فرمائی جو قطب عظمت اور آتاب بیوت و رسالت

النُّبُوَّةُ وَالرِّسَالَةُ وَالْهَادِيُّ مِنَ الضَّلَالَةِ وَالْمُنْقِذُ مِنَ

اور گرامی سے بچانے والے اور جہالت سے نکالنے والے ہیں، اللہ کا ان پر

الْجَهَالَةُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَوَةً دَائِئَةً الْإِتْصَالِ

صلوة وسلام ہو ایسا کہ جس کا تسلسل و اتصال دائم ہو اور دن اور رات کے

وَالْتَّوَالِيُّ مُتَعَاقِبَةً بِتَعَاقِبِ الْأَيَامِ وَاللَّيَالِيُّ

پلے در پلے رہنے تک پلے در پلے ہو

آٹھویں منزل بروز پیر

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ النَّبِيِّ الرَّاهِيِّ رَسُولِ الْمَلِكِ

اللہ سیدنا محمد سے نبی پیر رحمت نازل فرمائجو بدوالے نبی میں اور ایک اکیلہ اللہ

الصَّمَدِ الْوَاحِدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً دَائِمَةً

بے نیاز شہنشاہ کے پیغمبر میں اللہ کا ان پر صلواۃ وسلام ہوا کسی صلواۃ جو ہمیشہ

إِلَى مُنْتَهَى الْأَبَدِ يَا لَا انْقِطَاعَ وَلَا نَفَادَ صَلَاةً

رسے انتہاء اپنے کے بلا انقطع اور بلا اختتام ایسی صلواۃ جس کے طفیل

تُنْجِينَا بِهَا مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ

تینیں سورش جہنم سے نجات بخشنے اور وہ برائی کھانا بے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ النَّبِيِّ الْأَمِيِّ وَعَلَى أَهْلِهِ

اللہ سیدنا محمد سے نبی پیر اور ان کی آں پر صلواۃ وسلام نازل فرمائی صلواۃ

وَسَلِّمْ صَلَاةً لَا يُحْضِي لَهَا عَدْدٌ وَ لَا يُعَدُّ لَهَا مَدْدٌ

جس کی گنتی نہ ہو سکے اور جس کا سلسلہ شمار میں نہ آسکے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلُوَةً تُكِرِّمُ بِهَا مَثُواهُ وَتُبَلِّغُ

اے اللہ سیدنا محمد سے نبی پیر رحمت نازل فرمائی رحمت کتوں سے ان کی آرامگاہ کی

بِهَا يَوْمَ الْقِيمَةِ مِن الشَّفَاعَةِ رَضَا

حرمت بڑھائے اور اس سے بروز قیامت شفاعت کو ان کی مرضی کی حد تک پہنچا دے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِّيِّ الْأَصِيلِ السَّيِّدِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِّيِّ الْأَصِيلِ السَّيِّدِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِّيِّ الْأَصِيلِ السَّيِّدِ

النَّبِيِّ الَّذِي جَاءَ بِالْوُحْيِ وَالثَّنْزِيلِ وَأَوْضَحَ بَيَانَ

صاحب شرف میں جو دیجی اور قرآن لے کر آئے اور غیر کے بیان کو واضح کیا

الثَّاوِيلِ وَجَاءَهُ الْأَمِينُ چَبَرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

اور ان کے پاس جبریل امین علیہ السلام احرام وظیفت کرتے ہوئے آئے

بِالْكَرَامَةِ وَالثَّفْضِيلِ وَأَسْرَى بِهِ الْمَلِكُ الْجَلِيلُ فِي

اور شب تاریک و دراز میں راتوں رات ان کو مادشاہ باعظت لے کر گئے

اللَّيْلِ الْبَهِيمِ الطَّوِيلِ فَكَشَفَ لَهُ عَنْ أَعْلَى

پس ان کے لئے بلدریں عالم ملکوت کے پردے اٹھادیے

الْمَلْكُوتِ وَأَرَادَهُ سَنَاءُ الْجَبَرُوتِ وَنَظَرَ إِلَى قُدْرَةِ

اور ان کو عالم جبروت کی رغبت کا نثارہ کرایا اور انہوں نے حیات دوام

الْحَيِّ الدَّائِيمِ الْبَاقِي الَّذِي لَا يَمُوتُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

اور تقدیم ذات کی قدرت کا مشاہدہ کیا وہ ذات جسکی فنا نہیں اللہ کا صلوات وسلام

وَسَلَّمَ صَلْوَةً مَقْرُونَةً بِالْجَهَالِ وَالْحُسْنِ وَالْكَبَالِ

نازل ہوان پر ایسی صلوٰۃ حسن و جمال اور کمال اور خیر و انعام

وَالْخَيْرِ وَالْأَفْضَالِ

سے ملی ہوئی ہو

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْأَقْطَارِ

اے اللہ سیدنا محمد ﷺ پر اور آل سیدنا محمد ﷺ پر باش کے قطروں کے بقدر رحمت نازل

وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ عَدَدَ اَوْرَاقِ الْأَشْجَارِ

فرما اور سیدنا محمد ﷺ پر اور آل سیدنا محمد ﷺ پر دخنوں کے پتوں کے بقدر رحمت

وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ عَدَدَ زَيْدِ الْبِحَارِ

نازل فرما اور سیدنا محمد ﷺ پر اور آل سیدنا محمد ﷺ پر سندروں کی جھاگ کے

وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْأَنْهَارِ

بقدر رحمت نازل فرما اور سیدنا محمد ﷺ پر اور آل سیدنا محمد ﷺ پر نہروں کی تعداد کے

وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ عَدَدَ رَمْلِ

برابر رحمت نازل فرما اور سیدنا محمد ﷺ پر اور آل سیدنا محمد ﷺ پر جگہوں اور

الصَّحَارِيَ وَالْقَفَارِ وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ

بیابانوں کی ریت کے بقدر رحمت نازل فرما اور سیدنا محمد ﷺ پر اور آل سیدنا محمد ﷺ پر

عَدَدَ ثِقْلِ الْجِبَالِ وَالْأَخْجَارِ وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى

پر پہاڑوں اور پتھروں کے بوجھ کے بقدر رحمت نازل فرما اور سیدنا محمد ﷺ پر اور

اٰلِ مُحَمَّدٍ عَدَدَ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاهْلِ النَّارِ وَصَلِّ عَلٰى

آل سیدنا محمد ﷺ پر جنتیوں اور دخنوں کے شمارے برابر رحمت نازل فرما اور سیدنا محمد ﷺ پر

مُحَمَّدٌ وَ عَلَىٰ أَلٰ مُحَمَّدٍ عَدَدُ الْأَبْرَارِ وَالْفُجَارِ

اور آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تکبیل اور بدوں کے شارکے برابر رحمت نازل فرماؤ

وَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ عَلَىٰ أَلٰ مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا يُخْتَلِفُ بِهِ

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان چیزوں کی تعداد کے برابر رحمت نازل فرماؤ

اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَاجْعَلِ اللَّهُمَّ صَلَاتَنَا عَلَيْهِ حِجَابًا مِّنْ

جن پر رات اور دن کا آنا جانتا ہے اور اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے اس درود کو

عَذَابَ النَّارِ وَسَبَبًا لِإِبَاخَةِ دَارِ الْقَرَارِ إِنَّكَ أَنْتَ

عذاب دوزخ سے آڑ اور بہشت کی اجازت کا سبب بنادے بلکہ تو غائبہ والا

الْعَزِيزُ الْغَفَارُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَىٰ أَلِهِ

اور بخششے والا ہے اور اللہ رحمت نازل فرمائے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی پاکیزہ آؤ

الظَّاهِرُونَ وَ ذُرِّيَّتُهُ الْمُبَارَكَيْنَ وَصَحَابَتِهِ الْأَكْرَمِيْنَ

اور مبارک ذریت اور مجزز ترین صحابہ اور ان کی پیغمبریں پر

وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِيْنَ صَلَاةً مَوْضُولَةً تَتَرَدَّدُ

بومسلمانوں کی ماں بیٹیں ایسی رحمت جو روز جزا ائمہ مسلسل ہو

إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

اور مکرر ہوتی رہے

۱ ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِ الْأَبْرَارِ وَزَيْنِ الْمُرْسَلِيْنَ﴾

اے اللہ اس ذات (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) پر رحمت نازل فرمائیں مصلحت کے سرو اور پاک پیغمبرروں

الأخيار و آخرم من أظلم عليه الليل وأشراق

ک زینت ہیں اور ان تمام لوگوں میں بزرگ تر ہیں جن پر رات تاریکی ڈالتی اور

عَلَيْهِ النَّهَارُ

دان روشنی ذاتیے

۱ اللهم صلی علی سید الابرار وزین المرسلین

اے اللہ اس ذات (محمد ﷺ) پر رحمت نازل فرماجنم حملاء کے سردار اور پاک پیغمبروں

الأخيار و آخرم من أظلم عليه الليل وأشراق

ک زینت ہیں اور ان تمام لوگوں میں بزرگ تر ہیں جن پر رات تاریکی ڈالتی اور

عَلَيْهِ النَّهَارُ

دان روشنی ذاتیے

۲ اللهم صلی علی سید الابرار وزین المرسلین

اے اللہ اس ذات (محمد ﷺ) پر رحمت نازل فرماجنم حملاء کے سردار اور پاک پیغمبروں

الأخيار و آخرم من أظلم عليه الليل وأشراق

ک زینت ہیں اور ان تمام لوگوں میں بزرگ تر ہیں جن پر رات تاریکی ڈالتی اور

عَلَيْهِ النَّهَارُ

دان روشنی ذاتیے

اللهُمَّ يَا ذَا الْمَنْ إِلَيْكَ لَا يَكُافِي إِمْتِنَانُهُ وَالْقَوْلُ

اے اللہ اے ایسے احسان والے جس کی احسان مندی کا حق ادا نہیں ہو سکتا اور اے ایسے

الَّذِي لَا يُجَازِي إِنْعَامُهُ وَإِحْسَانُهُ نَسَّالُك بِكَ

عطاؤں لمحض کے انعام اور کام کا بدال نہیں دیا جاسکتا، ہم تجوہ سے تیراہی واسطہ

وَلَا نَسَّالُك بِأَحَدٍ غَيْرِكَ أَنْ تُظْلِقَ الْسِنَنَتَا عِنْدَ

دے کر مانگتے ہیں اور تجوہ کے کسی غیر کا واسطہ کرنے کیلئے ماگنے کے ہماری

السُّؤَالُ وَتُوفِّقَنَا لِصَالِحِ الْأَعْبَالِ وَتَجْعَلَنَا مِنْ

زبانوں کو سوال کے وقت چلا دینا اور ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے اور

الْأَمْنِينَ يَوْمَ الرَّجْفِ وَالزَّلَازِلِ يَذْاَلِعَزَّةُ

ہمیں لرزہ اور زلزلوں کے دن میں بے خوف کر دینا۔ عزت و جلال والے

وَالْجَلَالِ أَسْأَلُكَ يَا نُورَ النُّورِ قَبْلَ الْأَرْضَمَةَ

میں تجوہ سے سوال کرتا ہوں، میں نوروں کے نور، اوقات اور زمانوں سے

وَالْدُّهُورِ أَنْتَ الْبَاقِي بِلَازَوَالِ الْغَنِيُّ بِلَامِثَالِ

پہلے سے تو ایسا باتی ہے جسے زوال نہیں، ایسا غنی ہے جس کی نظر نہیں،

الْقُدُّوسُ الظَّاهِرُ الْعَلِيُّ الْقَاهِرُ الَّذِي لَا يُحِيطُ بِهِ

ایسا پاک منزہ برتر اور غالب ہے جسے کوئی جگہ گھیر سکے اور نہ

مَكَانٌ وَلَا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ زَمَانٌ أَسْأَلُك بِأَسْمَائِكَ

زمانہ اس پر مشتمل ہو سکے، میں تجوہ سے مانگتا ہوں بوسیلہ تیرے

الْحُسْنَى كُلُّهَا وَبِأَعْظَمِ أَسْمَائِكِ إِلَيْكَ وَآشْرَفَهَا

تمام احسان صافی اور تیرے اس نام کے جو تیرے نزدیک اعظم و اشرف مرتبہ والا

عِنْدَكَ مَنْزِلَةً وَأَجْزَلَهَا عِنْدَكَ ثَوَابًا وَأَسْرَعَهَا مِنْكَ

اور کشیش ثواب والا اور جلد قبولیت والا بے اور لطفیں

إِجَابَةً وَبِاسْمِكَ الْمَحْزُونُ الْمَكْنُونُ الْجَلِيلُ الْأَجَلُ

تیرے مستور و مخفی، جلیل الشان، کبیر و اکبر، عظیم

الْكَبِيرُ الْأَكْبَرُ الْعَظِيمُ الْأَعْظَمُ الَّذِي تُحْبَهُ

عظیم نام کے حسن تو محبوب و پسندیدہ بمحبتا ہے کوئی

وَتَرْضِي عَمَّنْ دَعَاكَ بِهِ وَتَسْتَجِيبُ لَهُ دُعَاءَهُ

تجھے اس نام سے پکارے اور تو اس کی دعا قبول فرمائے

أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِلَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْحَنَانُ الْمَنَانُ بَدِيرُ

میں تجوہ سے مانگتا ہوں اے اللہ یوساط اس کلمہ طیبہ کے کہ تیرے سو اکوی معمودین ہیں تو یہ حد

السَّيْفٍ وَالْأَرْضِ ذُوالْجَلَالِ وَالْأَكْرَامِ عَالِمُ

شفقت و احسان والا بے، آسانوں اور زمین کا موحد ہے، صاحب جلال و احترام ہے،

الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ وَأَسْأَلُكَ

غائب و حاضر کا جانئے والا بے، بڑی شان و الا اور بلندترین ہے اور تجوہ سے

بِإِسْمِكَ الْعَظِيمِ الْأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَتْ بِهِ

مانگتا ہوں تیرے ام عظیم کی برکت سے، جس کی شان یہ ہے کہ جب اس کے ذریعہ

أَجَبَتْ وَإِذَا سُئِلَتْ بِهِ أَعْطَيَتْ وَأَسْأَلُك بِإِسْمِكَ

تجھے دعا مانگی گئی تو تو نے قبول فرمائی اور جب کوئی چیز طلب کی گئی تو نے عطا فرمائی

الَّذِي يَزِدُّ لِعَظَمَتِهِ الْعُظَمَاءُ وَالْمُلُوكُ وَالسَّبَاعُ

اور میں تجھے سے تیرے اس نام کے واطھے مانگتا ہوں جس کی عظمت کے سامنے بڑے بڑے

وَالْهَوَامُ وَكُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ يَا اللَّهُ يَا رَبِّ اسْتَجِبْ

لوگ اور مسلمین اور درنے اور حضرات الارشاد اور ہر چیز نے تو نے پیدا فرمایا ہے جسک جاتے

دَعْوَتِي يَا مَنْ لَهُ الْعِزَّةُ وَالْجَبَرُوتُ يَا ذَا الْمُلْكِ

بیں اے اللہ اے پروردگار میری دعا قبول فرمائے اے وہ ذات کے ای کو غلپا اور اسٹل

وَالْمَلَكُوتِ يَا مَنْ هُوَ حَقٌّ لَّا يَمُوتُ سُبْحَانَكَ رَبِّ

حاصل ہے، اے ملک و ملکوت والے، اے وہ حیات والے جسے فنا نہیں، اے میرے رب تو پاک

مَا أَعْظَمَ شَأْنُكَ وَأَرْفَعَ مَكَانُكَ أَنْتَ رَبِّي يَا مُتَقَدِّسَا

ہے، تیری شان کتنی بڑی ہے اور تیر امر تیر کتنا بلند ہے تو ہی میر ارب ہے،

فِي جَبَرُوتِهِ إِلَيْكَ أَرْغَبُ وَإِلَيْكَ أَرْهَبُ يَا عَظِيمُ

اے اپنی جبروتی شان می پاک ذات، میں تیری ہی طرف جھکتا ہوں اور تجھے ہی سے ڈرتا ہوں

يَا كَبِيرُ يَا جَبارُ يَا قَادِرُ يَا قَوِيُّ تَبَارَكْتَ يَا عَظِيمُ

اے عظمت و کبریائی والے، اے جبار، اے قدرت و قوت والے تو بڑی برکت والا ہے،

تَعَالَىتَ يَا عَلِيُّمُ سُبْحَانَكَ يَا عَظِيمُ سُبْحَانَكَ

اے عظمت والے تعالیٰ شان ہے، اے علم والے تو پاک ہے، اے باعظت تو پاک ہے،

يَا جَلِيلُ أَسْلَكِ يَاسِمِكَ الْعَظِيمِ التَّامِ الْكَبِيرِ أَنْ

اے ہر زمانے والے میں تجھے سے تیرے باعظت و کامل اور بڑے نام کا وہ اسٹلے کر مانگتا

لَا تُسْلِطْ عَلَيْنَا جَبَارًا عَنِيدًا وَلَا شَيْطَانًا مَرِيدًا

ہوں کے سلطان فرمانا ہم پر کسی جابر و شریر کو اور نہ کسی سرکش شیطان کو

وَلَا إِنْسَانًا حَسُودًا وَلَا ضَعِيفًا مِنْ خَلْقِكَ وَلَا شَدِيدًا

اور شہزاد انسان کو اور نہ اپنی تھوڑی میں سے کسی کمزور کو، نہی زرد آؤ کو

وَلَا بَارًا وَلَا فَاجِراً وَلَا عَنِيدًا وَلَا عَتِيدًا اللَّهُمَّ إِنِّي

اور نہ کسی بیک کو اور نہ کسی حرس والے کو نہ شرارت والے کو، اے اللہ

أَسْئِلُكَ فَإِنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا

میں تجوہ سے مانگتا ہوں کیونکہ میں دل سے مانتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے تیرے علاوہ کوئی

أَنْتُ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوَلَّدْ

معبدوں میں تو اکیا ہے، بیکتا ہے، بے نیاز ہے جو ولاد و الدہو نے مزدہ ہے

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ يَاهُو يَامِنْ لَاهُو إِلَّاهُو يَامِنْ

اور اس کا کوئی ہم سرہنیں، اے وہی، اے وہ کبیں وہی وہ ہے، اے وہ ذات

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يَا أَرْلِي يَا أَبْدِي يَا دَهْرِي يَا دِيمُوْمِي

کہ کوئی معبدوں میں گروہی، اے ارزی، اے ابدي، اے قائم، اے دائم،

يَامِنْ هُوَ الْحَمْزِي لَا يَمُوتُ يَا إِلَهَنَا وَاللهُ كُلِّ شَيْءٍ

اے وہ حیات والے جسے قاتلین، اے ہمارے معبدوں اور ہر چیز کے معبدوں

إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

تن تبا معبد، تیرے سوا کوئی معبدوں میں

اللَّهُمَّ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمُ الْغَيْبِ

اے اللہ آسمانوں اور زمین کے موجہ، غائب و حاضر کے جانے والے،

وَالشَّهَادَةِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَقِّ الْقَيُّومِ الدَّيَانِ

رحم و رحیم و قیوم بیش بجا عطا کرنے والے

الْحَنَانَ الْبَنَانَ الْبَاعِثَ الْوَارِثَ ذَالْجَلَالِ

احسان و اکرام کرنے والے، مالک حشر، سب کے وارث، صاحب جلال

وَالْأَكْرَامُ قُلُوبُ الْخَلَائِقِ يَبْدِلُكَ تَوَاصِيهِمُ إِلَيْكَ

و اکرام، تمام مخلوقات کے قلوب تیرے قبضہ میں ہیں، سب کی پیشانیاں تیرے ہاتھ میں

فَأَئِتُ تَزَرَّعُ الْخَيْرِ فِي قُلُوبِهِمْ وَتَمْحُوا الشَّرَّ إِذَا

ہیں تو ہی خیر کو ان کے دلوں میں پروان چڑھاتا ہے اور شکوہ ملتا ہے جب

شِدْدَتَ مِنْهُمْ فَأَسْلِكْ اللَّهُمَّ أَنْ تَمْحُو مِنْ قَلْبِي

چاہتا ہے، بھی میں تھک سے اپنا کرتا ہوں اے اللہ کہ میرے قلب سے ہو دش

كُلَّ شَيْءٍ تَكُرُّهُهُ وَأَنْ تَحْشُو قَلْبِي مِنْ خَشِيَّتِكَ

منادے جو تھک نہ پسند ہو اور میرے قلب میں اپنا خوف اور اپنی معرفت اور

وَمَعْرِفَتِكَ وَرَهْبَتِكَ وَالرَّغْبَةَ فِيمَا عِنْدَكَ وَالْأَمْنَ

اپنا ذرا اپنے یاس کی چیزوں کی رشبہ اور امن و عافیت بھر دے

وَالْعَافِيَةَ وَاعْطِفْ عَلَيْنَا بِالرَّحْمَةِ وَالْبَرَكَةِ مِنْكَ

اور ہم پر اپنی رحمت و برکت سے نظر شفقت فرمًا

وَأَلْهِمْنَا الصَّوَابَ وَالْحِكْمَةَ فَنَسِّئْلُكَ اللَّهُمَّ عِلْمَ

اور ہمیں اصحاب اور دانش بخشنے دے، اے اللہ ہم تجوہ سے

الْخَائِفِينَ وَإِبَابَةَ الْمُخْبِتِينَ وَإِخْلَاصَ الْمُؤْقِنِينَ

ذرنے والوں جیسا علم اور تیر سے سامنے بچنے والوں بھسک تو جا اور اہل تینیں جیسا خاص

وَشُكْرَ الصَّابِرِينَ وَتَوَبَّةَ الصِّدِّيقِينَ وَنَسِّئْلُكَ

اور صابرین کے جیسا شکر اور صدقین کے جسی تو بہماںگتے ہیں اور اے اللہ ہم تجوہ

اللَّهُمَّ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي مَلَأَ أَرْكَانَ عَرْشِكَ أَنْ

سے تیری ذات کے اس نور کے طفیل مانگتے ہیں کہس نے تیرے عرش کے گوشوں کو

تَرْزَعَ فِي قَلْبِي مَعْرِفَتَكَ حَتَّىٰ آعِرِفَكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ

پر کردار یا کمیرے قلب میں اپنی معرفت کو گادے تاکہ میں تجوہ ایسا پہنچاؤں

كَمَا يَنْبَغِي أَنْ تُعْرَفَ بِهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا

جیسا پہنچانے کا حق ہے اور جیسا پہنچانا جاتا تیرے شایان شان ہے اور اللہ کی رحمت نازل

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٌ خَاتِمُ النَّبِيِّينَ وَإِمَامُ الْمُرْسَلِينَ

ہوسیدنا و نبینا و مولانا محمد ﷺ پر جو نبیوں میں آخری تی اور ربیعہروں کے امام ہیں

وَعَلَى إِلَهٖ وَصَحِّبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ

اور ان کی آل اور صحابہ پر اسلام نازل فرم اور تعریف اللہ رب الحمدیں کو زیریابے

الْعَلَمِينَ وَهُوَ حَسْبُنَا وَنِعْمَ الْوَكِيلُ وَلَا حَوْلَ

اور وہی تینیں کافی ہے اور وہ بڑا چھا کار ساز ہے اور نہ زور ہے

وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

نطاقِتِ مُغَرِّبِ اللَّهِ بِرَزْقِهِ وَعَظِيمَتِ كِفَافِهِ

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِمُؤْلِفِهِ وَلِقَارِئِهِ وَلِكَاتِبِهِ وَأَرْحَمْهُمْ

اے اللہ اس کتاب کے مؤلف اور اس کتاب کے پڑھنے والے اور لکھنے والے کی مغفرت فرمائیں

وَاجْعَلْهُمْ مِنَ الْمَحْشُورِينَ فِي زُمْرَةِ النَّبِيِّينَ

اور ان پر حمایت اور نسبت اپنے فضل سے ان لوگوں میں شامل فرماجن کا حضرتی قیامت کے

وَالصَّدِيقِيْنَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ بِفَضْلِكَ يَأْرَحُمُنَّ وَأَغْفِرِ

دان انبیاء علیہم السلام اور صدیقین کے ساتھ ہو گا اے بے حد رحم کرنے والے اور

اللَّهُمَّ لِمُصَحِّحِهِ عَبْدِكَ مُحَمَّدَ عَبْدِ الْحَقِّ وَلِوَالِدَيْهِ

اے اللہ اس کتاب کی تصحیح کرنے والے تیرے بندے محمد عبد الحق کی اور اس کے

وَآشِيَّاَخِهِ وَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِيْنَ وَأَجَازَةِ الشَّيْخِ وَلِ

والدین کی اور اس کے شانگی کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرماؤ عبد الحق نے اس کتاب

أَحْمَدَ وَأَجَازَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدَ قَمَرَ وَأَجَازَةِ الشَّيْخِ

کے پڑھنے کی اجازت دی تھی ولی الحمد کو انبیوں نے شیخ محمد قمر کو اجازت دی اور انبیوں

فَضَلُّ مُحَمَّدٍ وَأَجَازَةِ الشَّيْخِ شَهْمِسِ الرَّحْمَنِ آدَمَ

نے شیخ فضل محمد کو اجازت دیا اور انبیوں نے مولا ناشش الرحمن صاحب کو اجازت دی اللہ تعالیٰ

اللَّهُ بَرَّ كَاتِهِ وَمَتَّعَنَا بِطُولِ حَيَاَتِهِ

حضرت کی برکات کو دوام بخشدی اور حضرت کوئی زندگی عطا فرمائے کریمین ان سے فائدہ پہنچائیں

واجازة للاخ للاخت

اور مولانا ناٹس الرحمن صاحب نے اجازت دی کو

واجاز للاخ للاخت

اور انہوں نے اجازت دی کو

وَأَغْفِرُ اللَّهُمَّ لِمُصَحِّحِهِ وَمُرْتَبِهِ عَبْدِكَ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّزَاقِ

اور اے اللہ اس موجودہ کتاب کو ترتیب دینے والے اور اس کی تصحیح کرنے والے تیرے بنے

وَلِوَالِدِيهِ وَلَا خِيَهِ وَلَا هَلِهِ وَلِشَيْخِهِ وَاصِفِ بْنِ مَنْظُورٍ

سعد عبد الرزاق کی اور اس کے والدین کی اور اس کے بھائی کی اور اس کے گھروالوں کی اور اس

وَلَا سَاتِنَتِهِ وَلَا شَيْأَاخِهِ وَلِمَنْ أَعْانُوهَا فِي تَصْحِيحِ

کے شیخ حضرت واعظ منظور صاحب کی اور اس کے اساتذہ کرام کی اور اس کے مشائخ کی اور

وَإِشَاعَةِ هَذَا الْكِتَابِ وَأَغْفِرُ اللَّهُمَّ لَنَا وَلِوَالِدِينَا

ان تمام لوگوں کی جنہوں نے اس کتاب کی تصحیح اور اشاعت میں سعدی مدفوہ مائی سب کی مغفرت

وَلَا سُتَادِيْنَا وَلِمَشَائِخِنَا وَلِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِيْنَ

فرما اور اے اللہ ہمیں ہمارے والدین کو اور ہمارے اساتذہ کو اور ہمارے مشائخ کو اور تمام

وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ

مؤمنین اور مؤمنات کو اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو چاہیے وہ زندہ ہوں یا ان کا انتقال

وَالْأَمْوَاتِ يَرْحَمِنِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

ہو چکا ہوا پنی رحمت سے بخش دے اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے

ذیل میں دینے گئے چاروں درود شریف کو چودہ چودہ بار پڑھیے

۱ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَى بَدْرِ التَّمَامِ

اے اللہ چودھویں رات کے پورے چاند (محمد بن علی) پر رحمت نازل فرمایا

۲ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَى نُورِ الظَّلَامِ

اے اللہ انہیروں کی روشنی (محمد بن علی) پر رحمت نازل فرمایا

۳ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مِفْتَاحِ دَارِ السَّلَامِ

اے اللہ سلامتی کے گھر (جنت) کی چالی (محمد بن علی) پر رحمت نازل فرمایا

۴ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَى الشَّفِيعِ فِي جَمِيعِ الْأَنَاءِ

اے اللہ تھام عالم کی شفاعت کرنے والے (محمد بن علی) پر رحمت نازل فرمایا

اس کے بعد ان اشعار کو پڑھیے

يَا رَحْمَةَ اللَّهِ إِنِّي خَائِفٌ وَّجْلٌ

اے اللہ کی طرف سے رحمت بے شک میں خوفزدہ اور لرزائی ہوں

يَا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنِّي مُفْلِسٌ عَانِ

اے اللہ کی طرف سے نعمت بے شک میں محتاج اور عاجز ہوں

وَلَيْسَ لِي عَمَلٌ أَلْقَى الْعَلِيمُ بِهِ

میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں جس کے ساتھ میں اس علیم ذات کی بارگاہ میں حاضری دون

سِوئی مَحَبَّتِک الْعُظُمی وَ ایمانی

میرے پاس وائے آپ مُلِکِ الْجَنَانِ کی عظیم محبت اور ایمان کے کچھ بھی نہیں

فَكُنْ أَمَانِيْ مِنْ شَرِّ الْحَيَاةِ وَ مِنْ

تو آپ زندگی کے شر سے میری پناہ بن جائیے اور

شَرِّ الْمَمَاتِ وَ مِنْ إِحْرَاقِ جُهْمَانِيْ

موت کی برآئی اور میرے حتم کے جلنے سے (میری پناہ بن جائیے)

وَ كُنْ غَنَّائِ الَّذِي مَا بَعْدَهُ فَلَسْ

اور آپ میرے لئے ایسی توکری کا سبب بن جائیے جس کے بعد مغلائی ہو

وَ كُنْ فَكَارِيْ مِنْ أَغْلَالِ عَصِيَانِيْ

اور میرے گناہوں کے طوقوں سے میری رہائی کا سبب بن جائیے

تَحِيَّةُ الصَّمَدِ الْمَوْلَى وَ رَحْمَةُهُ

الله ما کے بے نیاز کا تخد اور اس کی رحمت

مَاغَنَّتِ الْوَرْقُ فِي أَوْرَاقِ أَغْصَانِ

جب تک شاخوں کے پتوں پر قریباً آپ کی مظہر کے گیت گنتاں رہیں

عَلَيْكَ يَا عُروْتَيْ الْوُثْقَى وَ يَا سَنَدِيْ

آپ کی ذات پر بھروسہ ہے آپ میرے لئے مضبوط سہارا اور قابلِ اعتاد ذات ہیں

الْأَوْفِي وَ مِنْ مَدْحَهَ رَوْحَنِي وَ رَيْحَانِي

کامل، اور وہ کہ جن کی تعریف میرے لئے راحت اور فرحت کا سبب ہے

پھر ان اشعار کو پڑھئے

نَبِيُّ الْهُدُىٰ ضَاقَتْ بِي الْحَالُ فِي الْوَزِيْرِ

اے ہدایت فرمانے والے نبی اس دنیا میں میرا حال تگ ہو گیا

وَأَنْتَ لِمَا أَمْلَأْتُ فِيْكَ جَدِيْرٌ

اور آپ ہی وہ ذات ہیں کہ میں آپ سے کوئی تباہ کر سکوں

فَسَلُّ خَالِقٍ تَفْرِيْجَ كَرِيْبٍ فَإِنَّهُ

آپ اپنے خالق سے میرے لئے سوال (دعا) کریں کہ میری تکالیف دور ہو جائیں

عَلَى فَرَجِيْ دُونَ الْأَنَامِ قَدِيْرٌ

کیونکہ تمام مخلوق کے علاوہ صرف وہی میری تکالیف کے دور کرنے پر قادر ہے

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

اللّٰهُمَّ اشْرَحْ بِالصَّلٰوةِ عَلَيْهِ صُدُورَنَا وَيَسِّرْ بَهَا

اللّٰہِ اَخْمَضَتْ سَلَالِیْمَ پُورِ دُرُودَ پُرِ حَسَنَتْ کی برکت سے ہمارے یہیں کھول دے اور اس کی برکت سے

أُمُورَنَا وَفَرِجُ بِهَا هُمُومَنَا وَأَكْشِفُ بِهَا غُمُومَنَا

ہمارے کام آسان فرم اور اس کی برکت سے ہمارے لکر دفع فرم اور اس کی برکت سے ہمارے غم زائل فرم ا

وَاغْفِرْ بِهَا ذُنُوبَنَا وَاقْضِ بِهَا دُيُونَنَا وَأَصْلِحْ بِهَا

اور اس کی برکت سے ہمارے گناہ بخش دے اور اس کی برکت سے ہمارے قرض ادا کر دے اور ان کی برکت سے

أَحْوَالَنَا وَبَلِّغْ بِهَا أَمَالَنَا وَتَقَبَّلْ بِهَا تَوْبَتَنَا وَأَغْسِلْ

ہماری حالتیں سوار دے اور اس کی برکت سے ہماری مرادیں پوری فرم اور اس کی برکت سے ہماری توبہ قبول فرم ا

بِهَا حُوَبَتَنَا وَانْصُرْ بِهَا حُجَّتَنَا وَظَهِيرَ بِهَا الْسِنَتَنَا

اور اس کی برکت سے ہماری خطاؤں کو وہ دے اور اس کی برکت سے ہماری حجت کو غلبہ بخش اور اس کی برکت سے

وَإِنِّي بِهَا وَحْشَتَنَا وَأَرْحَمْ بِهَا غُرْبَتَنَا وَاجْعَلْهَا

ہماری زبانوں کو پاک کر دے اور اس کی برکت سے ہماری وحشت کو انس سے بدل دے اور ہماری کس مپرسی پر فرم فرم ا

نُورًا بَيْنَ أَيْيَيْنَا وَمِنْ خَلْفِنَا وَعَنْ أَيْمَانِنَا وَعَنْ

اور اس کو فور بنا دے ہمارے آگے اور بچھے اور داشتے اور باعین

شَهَائِيلَنَا وَمِنْ فَوْقِنَا وَمِنْ تَحْتِنَا وَفِي حَيَاةِنَا

اور اوپر اور سینچ اور ہمارے جیتنے اور مرنے میں

وَمُؤْتَنَا وَفِي قُبُورِنَا وَحَشْرِنَا وَنَشْرِنَا وَظِلَّاً فِي يَوْمٍ

اور ہماری قبروں میں اور حروث میں اور اسے بروز قیامت ہمارے سروں پر سایہ بنادے

الْقِيمَةُ عَلَى رُؤُوسِنَا وَثَقِيلٌ بِهَا مَوَازِينَ حَسَنَاتِنَا

اور اس کی برکت سے ہماری بیکیوں کے پلڑے دوستی کر دے

وَأَدْمَرْ بَرَكَاتِهَا عَلَيْنَا حَتَّى نَلْقَى نَبِيَّنَا وَسَيِّدَنَا

اور اس کی برکتیں ہم پر ہمیشہ رکھ پہاں تک کہ ہم اپنے نبی و آقا محمد ﷺ سے ملیں

مُحَمَّداً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَحْنُ أَمْنُونَ

اس حال میں کہ ہم بے خوف و خطاں اور فرحاں و شاداں ہوں

مُطْمِئِنُونَ فِرْحَوْنَ مُسْتَبِشِرُونَ وَلَا تُفَرِّقْ بَيْنَنَا

اور ہمارے اور ان کے درمیان جدائی نہ ڈالنا

وَبَيْنَهُ حَتَّى تُدْخِلَنَا مُدْخَلَةً وَتُؤْوِيَنَا إِلَى جَوَارِهِ الْكَرِيمِ

پہاں تک کہ ہم ان کے گل میں داخل فرمائے اور ان کے محترم ہمسایہ میں ہمیں جگہ بخش

مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ

ان حضرات کے ساتھ جن پر تو نے العالم فرمایا لعی نبیا و صداقین

وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّلِحِينَ وَحُسْنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا

اور شہداء و صالحین کے ساتھ اور یہ فیض کیا ہی اچھے ہیں

اللَّهُمَّ إِنَّا أَمَّنَا بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ نَرَأْ

الی ہم آنحضرت ﷺ پر ایمان لائے حالانکہ ہم نے انہیں دیکھا ہیں ہے

فَمَتَّعْنَا اللَّهُمَّ فِي الدَّارَيْنِ بِرُوْيَتِهِ وَثَبَّتْ قُلُوبَنَا عَلَى

تو اے اللہ تو دین و دینا میں ہمیں ان کا دیدار نصیب فرمادا رہا مارے دلوں کو ان کی محبت پر

مَحَبَّتِهِ وَاسْتَعْمَلْنَا عَلَى سُنْنَتِهِ وَتَوَفَّنَا عَلَى مِلَّتِهِ

قاوم کر کو اور ہمیں ان کی سنت پر عمل کرنے والا بنا اور ہمیں ان کی ملت پر موت دینا

وَاحْشَرْنَا فِي زُمْرَتِهِ النَّاجِيَةِ وَحِزْبِهِ الْمُفْلِحِينَ

اور ہمارا حشران کے نجات یا فتح گروہ کے ساتھ اور ان کی بامداد جماعت میں فرما

وَانْفَعْنَا بِهَا انْطَوْثَ عَلَيْهِ قُلُوبُنَا مِنْ مَحَبَّتِهِ صَلَّى

اور ہمیں آپ ﷺ کی اس محبت سے فتح بخشا جس پر ہمارے قلب مشتعل ہیں

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ لَاجَّ وَلَا مَالَ وَلَا بَنِينَ

اس دن کہ جس دن نبی مکمل (کام آئے گی) نہ مال نہ اولاد

وَأَوْرِدْنَا حَوْضَهُ الْأَصْفَى وَاسْقَنَا بِكَاسِهِ الْأَوْفَى وَيَسِّرْ

اور ہمیں ان کے صاف ترین حوش پر بلا تنا اور ہمیں ان کے ہمرا پور بیانے سے بلانا

عَلَيْنَا زِيَارَةً حَرَمَكَ وَحَرَمَهُ مِنْ قَبْلٍ أَنْ تُمِيتَنَا

اور موت سے پہلے پہلے ہمارے لئے آپ ﷺ کے حرم اور اپنے حرم کی زیارت آسان فرمائے

وَأَدْمَرْ عَلَيْنَا الْإِقَامَةَ بِحَرَمَكَ وَحَرَمَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

اور ہمیں اپنے حرم اور آنحضرت ﷺ کے حرم میں داؤگی قیام نصیب فرمائے

وَسَلَّمَ إِلَى أَنْ نُسْتَوْفِ

یہاں تک کہ ہمارا انتقال ہو جائے

اللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِهِ إِلَيْكَ إِذْ هُوَ أَوْجَهُ الشُّفَاعَاءِ

اے اللہ ہم ان کو تیری بارگاہ میں بطور شفاقت لاتے ہیں کیونکہ وہ جملہ شفغااء میں قائم ترین ہیں

إِلَيْكَ وَنُقِسِّمُ بِهِ عَلَيْكَ إِذْ هُوَ أَعْظَمُ مَنْ أُقْسِمَ

اور ہم آپ کو ان کی قسم دیتے ہیں کیونکہ وہ ان سب میں بڑے ہیں جن کے حق کی

بِحِقِّهِ عَلَيْكَ وَنَتَوَسَّلُ بِهِ إِلَيْكَ إِذْ هُوَ أَقْرَبُ

آپ کو قسم دی جائے اور ہم آپ کے دربار میں ان کا وسیلہ لاتے ہیں کیونکہ وہ تمام دیلوں میں

الْوَسَائِلِ إِلَيْكَ نَشْكُوا إِلَيْكَ يَا رَبِّ قَسْوَةً قُلُوبَنَا

آپ کے قریب ترین ہیں اے ہمارے رب ہم تم جس سے شکوہ کرتے ہیں اپنی خست دلی

وَكَثِرَةً دُنُوبِنَا وَطُولَ أَمَالِنَا وَفَسَادَ أَعْمَالِنَا

اور گناہوں کی کثرت اور امیدوں کے طویل ہونے اور اعمال کی خرابی

وَتَكَاسُلَنَا عَنِ الطَّاعَاتِ وَهُجُومَنَا عَلَى الْمُخَالَفَاتِ

اور طاعتوں سے اپنی کامیابی کا اور مخالفتوں پر گرپنے کا

فَنِعْمَ الْمُشْتَكِي إِلَيْهِ أَنْتَ يَا رَبِّ بِكَ نَسْتَنْصِرُ عَلَى

کیا ہی اچھا فریاد ہے تو اے پروردگار ہم تم جس سے مدد مانگتے ہیں اپنے دشمنوں

أَعْدَدِنَا وَأَنفَسِنَا فَانْصُرْنَا وَعَلَى فَضْلِكَ نَتَوَكَّلُ فِي

اور اپنے نفسوں پر پیس ہماری مدوف رہا اور ہم تیرے ہی فضل پر بھروسہ رکھتے ہیں اپنی بہبود میں

صَلَاحِنَا فَلَا تَكُلُّنَا إِلَى غَيْرِكَ يَا رَبَّنَا اللّٰهُمَّ وَإِلَيْ

پس ہمیں کسی دوسراے کے حوالہ نہ فرمائے ہمارے رب

جَنَابِ رَسُولِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَنْتَسِبُ

اور اے اللہ بھت تیرے ہی رسول ﷺ کی بارگاہ کی طرف منسوب ہیں

فَلَا تُبَعِّدُنَا وَبِبَآبِكَ نَقْفُ فَلَا تَنْظِرْدُنَا وَإِيَّاكَ نَسْأَلُ

پس ہمیں دور نہ فرم اور ہم تیرے ہی آستانہ پر کھڑے ہیں پس ہمیں نہ دھکانا اور ہم تجوہی سے

فَلَا تُخَيِّبْنَا أَللَّهُمَّ ارْحَمْ تَضَرُّعَنَا وَامِنْ خَوْفَنَا

ما نگ رہے ہیں پس ہمیں محروم نہ فرماء، اے اللہ ہماری آہ و زاری پر رحم فرم اور ہمارے خوف کو امن سے

وَتَقْبَلْ أَعْمَالَنَا وَاصْلِحْ أَخْوَالَنَا وَاجْعَلْ بِطَاعَنَكَ

بدل دے اور ہمارے اعمال قبول فرمائے اور ہمارے حالات سفاردے اور اپنی طاعت کو

اشْتِغَالَنَا وَإِلَى الْخَيْرِ مَالَنَا وَحَقِّقْ بِالرِّيَادَةِ

ہمارا مشغله اور بھلائی کی طرف ہمارا انجام بنا دے اور ہماری جتنا کمیں مج اضافہ کے پوری فرمادے

أَمَالَنَا وَاخْتِمْ بِالسَّعَادَةِ أَجَالَنَا هَذَا ذُلْلَنَا ظَاهِرٌ بَيْنَ

اور ہماری کام کا معاوضت پر خاتم فرمانا، ہماری یہ خواری تیرے سامنے ظاہر ہے

يَدِيكَ وَحَالَنَا لَا يُخْفِي عَلَيْكَ أَمْرَنَا فَتَرَكْنَا

اور ہماری (اندرونی) حالت سمجھی تجوہ پر پوشیدہ نہیں تو نہیں امر فرمایا تو ہم نے اسے چھوڑ دیا

وَنَهَيْتَنَا فَارْتَكَبْنَا وَلَا يَسْعُنَا إِلَّا عَفْوُكَ فَاعْفُ

اور تو نے ہمیں منع فرمایا تو ہم اسی کے مرتكب ہے اور سجزی معافی کے ہمارے لئے کوئی سختی نہیں

عَنَّا يَا حَيْرَ مَأْمُولٍ وَأَكْرَمَ مَسْؤُلٍ إِنَّكَ عَفُوٌ كَرِيمٌ

پس ہمیں معاف فرمادے اے بہترین امیدگاہ اور بزرگ ترین داتا بے شک تو بخشنش والاشفیق و مہربان ہے

غَفُورٌ رَّءُوفٌ رَّحِيمٌ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ

اے ارحماں ارحیمین اور سیدنا محمد ﷺ پر اور ان کی آل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا

اور ان کے صحابہ پر اللہ رحمت نازل فرمائے اور بکثرت سلام نازل فرمائے

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمَاءِ

اور سب تعریفیں اللہ رب العالمین کو ہی زیبا میں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ